

SENATE OF PAKISTAN

SENATE DEBATES

Thursday, the 21st July, 1988

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House), Islamabad, at ten of the clock in the morning, with Mr. Chairman (Mr. Ghulam Ishaq Khan) in the Chair.

RECITATION FROM THE HOLY QUR'AN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا اللّٰعْمَتَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلْفَ بَیْنِ قُلُوْبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَی شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَلْقَدْنَاكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰیٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

(آل عمران ۱۰۳-آیت)

ترجمہ: اور اللہ کی رسی سب مل کر مضبوط تھامے رہو اور باہم نااتفاق نہ کرو اور اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو کہ جب تم (باہم) دشمن تھے تو اس نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی سو تم اس کے انعام سے (آپس میں) بھائی بھائی بن گئے اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے سو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام کھول کر سناتا رہتا ہے تاکہ تم راہ یاب رہو۔

SENATE OF PAKISTAN

SENATE DEBATES

Thursday, the 21st July, 1988

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House), Islamabad, at ten of the clock in the morning, with Mr. Chairman (Mr. Ghulam Ishaq Khan) in the Chair.

RECITATION FROM THE HOLY QUR'AN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا اللّٰعْمَتَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلْفَ بَیْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَی شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَلْقَدْنَاكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰیٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

(آل عمران ۱۰۳-آیت)

ترجمہ: اور اللہ کی رسی سب مل کر مضبوط تھامے رہو اور باہم نااتفاق نہ کرو اور اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو کہ جب تم (باہم) دشمن تھے تو اس نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی سو تم اس کے انعام سے (آپس میں) بھائی بھائی بن گئے اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے سو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام کھول کر سناتا رہتا ہے تاکہ تم راہ یاب رہو۔

QUESTIONS AND ANSWERS

جناب چیئرمین : جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر ۴۸
جناب صوبیدار خان مندوخیل۔

ELECTRIFICATION OF VILLAGE PARTALI KALAN

48. *Subedar Khan Mando Khel (Put by Nawabzada Jahangir Shah) : Will the Minister for Water and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the residents of Village Partali Kalan, Tehsil Gujar Khan had applied in February, 1987 for provision of electricity in the said village through elected representatives and the Minister for Water and Power had issued orders for the implementation of the recommendations of the elected representatives :

(b) whether it is further a fact that WAPDA surveyed the said village in last year ; if so ; and

(c) the expected date by which the said village will be electrified ?

Mr. Illahi Bakhsh Soomro : (a) Yes.

(b) The village was got surveyed said feasibility report was sent to Irrigation and Power Department, Government of Punjab in August, 1987. Necessary approval from the Punjab Government is still awaited.

(c) This village will be electrified as and when the approval of Provincial Government is received.

Mian Alam Ali Laleka : Will the Minister for Power be pleased to state whether there is any procedure laid down to check up the references they make to the Provincial Government. A period of one year has lapse since they have called for a report from the Provincial Government. Is there a procedure with them to check and to follow up their queries ?

Mr. Illahi Bakhsh Soomro : Sir, we don't make any reference to the Provincial Government. We await the advice of the Provincial Government for electrification of a particular village.

Mian Alam Ali Laleka : Sir, the answer to part (b) is :

“that the feasibility report was sent to Irrigation and Power Department Government of Punjab, in August, 1987. Necessary approval from the Punjab Government is still awaited.”

تو یہ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں اور اس انتظار کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اور کیسے یہ چیک کرنے ہیں کہ کب وہ رپورٹ

آئے گی۔ کیا یہ کاغذی کارروائی ہوتی ہے کہ جو چیز ان کے پاس آئے بس یہ صوبوں کو بھیج دیتے ہیں اور صوبے ان کو بھیجتے ہیں۔

Mr. Chairman : You can explain the policy.

لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دراصل مسئلہ صوبائی حکومت کا ہے وہ جس کو چاہتے ہیں اجازت دیتے ہیں۔ جس کو نہیں چاہتے اجازت نہیں دیتے۔ جتنا روپیہ مخصوص ہوتا ہے وہ صوبائی حکومت کی ڈسپوزل پر ہوتا ہے کہ کون کون سے دیہات کو اس سال electrify کرنا ہے وہ یہ صرف سفارش کرتے ہیں۔

Mr. Illahi Bakhsh Soomro : That is right Sir. Allocation has been made to the Provincial Government and within that allocation they advise us which villages to electrify.

Mian Alam Ali Laleka : Sir, then the answer to part (b) would be a vague answer because the honourable worthy Minister has mentioned that the village was got surveyed and feasibility report was sent to Irrigation and Power Department.

اگر یہ اس کو electrify نہیں کر سکتے ہیں الیکٹریفیکیشن اگر صوبوں کے ذمے ہے۔ تو یہ جو فیئریبلٹی رپورٹ بنوائی گئی اس کا سروے بنایا گیا اس کا کیا فائدہ ہوا؟

Mr. Illahi Bakhsh Soomro : Sir, the purpose of the survey is to estimate the cost of the electrification of the village. So, once that has been done then alone they can advise us which villages to electrify.

Mr. Chairman : Right. Next question. No. 49. Nawabzada Jahangir Shah.

STAFF OF S.N.G.C. MEMBERS OF A.I.E.

49. *Nawabzada Jahangir Shah : Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to state :

(a) the total number, names and designations of those persons in the Engineering group of executive staff in the Sui Northern Gas Company who are members of the American Institute of Electrical and Electronics Engineers indicating also the total number names and designations of those persons in the subordinate staff of the said company who are the members of the said Institute; and

(b) whether it is a fact that members belonging to executive staff have been promoted but those belonging to subordinate staff ignored ; if so, the reasons therefor?

Ch. Nisar Ali Khan: (a) Presently there are four numbers of Executive staff who are members of the American Institute of Electrical and Electronics Engineers. New York. Their names are as follows :—

1. Ghulam Hassan, Telecomms Supdt.
2. Mr. Abrar Ahmad, Senior Maintenance Engineer.
3. Mr. Zahoor Ahmad, Senior Telecomms Engineer.
4. Mr. M. Yaqoob Shah, Assistant Corrosion Engineer.

Regarding the subordinate staff, there are two members of the said American Institute as follows :—

1. Mr. Sajid Ali, Sub-Engineer (Corrosion).
2. Mr. M. Ayaz, Sub-Engineer (Corrosion).

(b) No.

SUPPLY OF ELECTRICITY

50. *Nawabzada Jahangir Shah : Will the Minister for Water and Power be pleased to state whether it is a fact that the WAPDA had laid distribution line for supply of electricity to Dhoke Chappar near High Court building. Village Kotha Kalan, Rawalpindi during the last year but domestic connections to the residents of that locality have not been provided so far. If so, the reasons therefor ?

Reply not received.

GAS SUPPLIED BY S.N.G.C. DURING 1987-88

51. *Nawabzada Jahangir Shah : Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to state :

(a) the names of the cities and towns provided with gas by Sui Northern Gas Company during the year 1987-88, indicating also the names of the cities

and towns which will be provided similar facility by the said company up to 1990 ; and

(b) when project five of the Sui Northern Gas Company was started, indicating also the number of officers and staff members deputed on that project and the extent of work done in laying gas pipeline ?

Ch. Nisar Ali Khan : (a) No new towns were connected with gas by SNGPL during 1987-88. However the project for extension of gas network to the towns of Havelian, Abbottabad and Mansehra is in hand which will be commissioned before 1990. In addition the Government is considering extension of gas network to new towns. The number of towns which could be connected with gas by 1990 would be known after the recommendations for new towns have been finalised/approved and funds made available.

(b) SNGPL's project-V commenced in November, 1985. At that time the project department of SNGPL comprised of 38 officers and 344 subordinate members of staff. The extent of pipelines laid by the project department since November, 1985 is as follows :—

Lines size	Length laid
24"	184.4 miles
18"	56.2 miles
10"	36.2 miles
8"	13.6 miles
	<hr/> 290.4 miles

Mr. Chairman : No supplementary question, Next Brig. (Retd.) Abdul Qayyum Khan Q. No. 52.

SUPPLY OF ELECTRICITY TO VILLAGE DINGAY (SIALKOT)

52. *Brig. (Retd.) Abdul Qayyum Khan (Put by Nawabzada Jahangir Shah) : Will the Minister for Water and Power be pleased to refer to his reply to Starred Question No. 77 given on the floor of the House on 19th March 1988 and state :

(a) the total number of connections so far provided against the 126 demand notices issued by the WAPDA ; and

(b) the total number of applicants who have not yet been provided electricity connections indicating also the time by which the remaining applicants will be provided electricity connections ?

Mr. Illahi Bakhsh Soomro : Connections to all the applicants of village Dingay, Tehsil Pasroor, District Sialkot were given in June, 1988.

Mr. Shad Muhammad Khan : Supplementary, Sir. Due to the non-availability of meters these supplies are being delayed unnecessarily, whether the Government is ready to allow these people to purchase meters from the market ?

جناب چیئرمین : جس گاؤں کے متعلق سوال ہے وہ تو فرماتے ہیں کہ سب کے سب درخواست گزاروں کو کنکشن دے دیئے گئے ہیں۔

جناب شاد محمد خان : میں generally کہتا ہوں۔

جناب چیئرمین : generally اگر میٹرز کی کمی ہے تو وہ آپ (وزیر صاحب) جواب دیں۔

Mr. Illahi Bakhsh Soomro : Sir, I would like a separate question so that I can collect the data if there is genuine shortage of meters.

Mr. Chairman : Fresh notice. Next question Mr. Muhammad Tariq Chaudhry.

ELECTRIFICATION OF DHOKE RAJOODI (CHAKWAL)

53. *Mr. Muhammad Tariq Chaudhry (Put by Mr. Hasan A. Shaikh) : Will the Minister for Water & Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the village "Kariyala" Tehsil and District Chakwal has been electrified leaving out "Dhoke Rajoodi" of this village, if so its reasons ; and

(b) when the Government plans to electrify the said "Dhoke" ?

Mr. Illahi Bakhsh Soomro : (a) Yes, village Kariyala, Tehsil and District Chakwal was electrified without electrifying Dhoke Rajoodi under Asian Development Bank Loan Scheme during June, 1985, according to the work order prepared after approval of the village by Provincial Government. Under the Asian Development Loan Scheme only the main villages were electrified and Dhoke Rajoodi was not included in the approved list of the provincial government as such the Dhoke was not electrified.

(b) The said Dhoke is not approved and could only be electrified after the approval of Provincial Government.

SUPPLY OF ELECTRICITY TO DHOKE MATOR

54. *Mr. Muhammad Tariq Chaudhry (Put by Mr. Hasan A. Shaikh) : Will the Minister for Water and Power be pleased to state whether it is a fact that the village Mator, Tehsil Kahutta, District Rawalpindi has been electrified but

Dhoke Talbi Dakhli Mator of the same village has been ignored. If so, the reasons thereof and the time by which electricity will be provided to the said Dhoke ?

Mr. Illahi Bakhsh Soomro : Village Mator was electrified in 1972-73 but Dhoke Talbi was not electrified due to the policy of the Provincial Government prevailing at that time. The said Dhoke has also not been approved by the Provincial Government so far, therefore, its electrification cannot be undertaken and no definite time of its electrification can be given in the absence of approval.

Mr. Chairman : Supplementary question.

Mian Alam Ali Laleka : Sir, I draw the attention of the Minister for Water and Power whether it is not a policy of the Government to electrify villages which are within half a mile or comprising population of twenty houses of the village which is sanctioned and approved by the Provincial Government. Apart from the plan approved wherever it is comprising of twenty houses or within half a mile, it is supposed to be a component part of that approved village.

Mr. Illahi Bakhsh Soomro : Policy of the Government is not based on the distance between the villages as I had submitted earlier Sir, the bulk allocation is made to the Province and Province is given the cost of electrification of each village and the option of electrification of the village is left to the Provinces. So, it is for the Provinces to choose the villages whatever they like Sir.

میاں عالم علی لالیکا : جناب والا ! طارق چوہدری صاحب کا سوال ہے

That the village Mator, Tehsil Kahuta, District Rawalpindi has been electrified but Dhoke Talbi Dakhli Mator of the same village has been ignored.

اب وہ ڈھوک طالبی جو ہے وہ اسی گاؤں کا ایک حصہ ہے اس کے لئے جہاں تک مجھے علم ہے قانون و ضابطہ یہ ہے کہ جو بیس گھروں پر مشتمل آبادی کسی مرکزی موضع کی ہو یا اس سے آدھے میل کے اندر اندر ہو وہ covered ہوتی ہو یعنی وہ اسی گاؤں کا حصہ شمار ہوگی اب میں وزیر واٹر اینڈ پاور سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک بڑے موضع کے ساتھ چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی ہیں جیسا کہ موٹر بذات خود ایک بڑا گاؤں ہے لیکن ڈھوک طالبی کی

[Mian Alam Ali Laleka]

آبادی اگر بیس گھرانوں سے زیادہ ہے تو اس کو محروم کرنے کی کیا وجہ ہے وہ اسی کے ساتھ کیوں نہیں منسلک کر دی جاتی، کیا ڈھوک طالبی کے لوگ الیکٹریفیکیشن کے لیے تاقیامت محروم رہ جائیں گے کیوں کہ ان کا تو بذات خود ایک موضع بنتا نہیں ہے، موضع تو مسور ہے اور ڈھوک طالبی اس موضع کی داخلی آبادی ہے۔

جناب چیئرمین: میرے خیال میں وزیر صاحب کے لیے جواب دینا آسان ہو جائے گا اگر آپ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ڈھوک طالبی کی آبادی کتنی ہے یا گھر کتنے ہیں اور وہ مرکزی گاؤں سے کتنے فاصلے پر واقع ہے۔

Mian Alam Ali Laleka : Mr. Chairman, I am not fully conversant with that.

جناب چیئرمین : یہی problem منسٹر صاحب کا بھی ہوگا۔

Mr. Illahi Baksh Soomro : Sir, I do appreciate the concern of the honourable Senator. Perhaps, I will have it examined if it is within the competence of the Ministry or the Authority we will have it electrified Sir.

Mr. Chairman : Thank you. Next question No. 55, Mr. Abdul Majid Kazi.

POWER-SHORTAGE

55. *Mr. Abdul Majid Kazi : (Put by Mr. Hasan A. Shaikh) Will the Minister for Water and Power be pleased to state :

(a) the period during the year in which the country faces acute power shortage ;

(b) Month-wise generation capability of the proposed Kala Bagh Dam and low head hydel projects, on Chashma, Taunsa and Jinnah Barrages, during the above period ; and

(c) the cost per Megawatt of generating capability and installed capacity in respect of all above four projects separately in each case for the above period with monthly break-up ?

Mr. Illahi Bakhsh Soomro : (a) In the months of January, February, May and June, the country faces acute shortage of power.

(b) Month-wise average generation capacity in MW from the proposed projects is as under :—

	Kalabagh	Chashma	Taunsa	Jinnah
January	2550	73	48	42
February	2760	76	64	58
May	2770	170	144	132
June	1849	206	164	148

The generation capacity of Taunsa and Jinnah Hydel Stations is based on Ranking study of May, 1985 and is tentative.

(c) The cost per MW of generating capability for each month is never calculated. However approximate cost per MW of installed capacity of the projects is as under :—

	Rs.
Kalabagh	17.5 million
Chashma	20.2 million
Jinnah	32.2 million
Taunsa	28.5 million

Mr. Chairman : No supplementary, next question No. 56. Mr. Abdul Majid Kazi.

IMPORT OF DRILLING RIG

56. ***Mr. Abdul Majid Kazi** (Put by Mr. Hasan A. Shaikh) : Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to state :

(a) the rate of custom duty payable on the machinery and equipment imported by operators under the Badin Block & North Pothwar concession agreements (i) prior to declaration of commercial discovery and (ii) two years of the date of commercial discovery of any field; and

(b) whether the custom duty is payable and actually paid for drilling rigs initially imported for exploratory drilling under exploration licence in Badin Block and North Pothwar Block and subsequently utilized for development drilling in any such field in Badin and Pothwar Blocks after completion of a period of 24 months of its commercial discovery and mining lease granted under the exploration licence ?

Ch. Nisar Ali Khan : (a) (i) Zero per cent.

(ii) 5½ per cent.

[Ch. Nisar Ali Khan]

(b) OXY did not import a drilling rig after completion of a period of 24 months of its commercial discovery in North Pothwar Block. However, Union Texas imported a rig after 24 months of a commercial discovery in Badin Block and paid custom duty @ 5¼ per cent.

Mr. Chairman : No supplementary apparently. Next question No. 57.

G.O.R. OF PRODUCING FIELDS IN THE BADIN BLOCK

57. *Mr. Abdul Majid Kazi (Put by Mr. Hassan A. Shaikh) : Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the gases from the fields in Badin Block for the purpose of fixation of producer's price are classified as Associated gas when their Gas Oil Ratio (G.O.R.) is less than ten thousand and Non-Associated gas when their G.O.R. is ten thousand or higher ;

(b) the G.O.R. of various fields discovered in Badin Block and the price per MCF of gas from these fields to be paid by the Government to the producer on the basis of memorandum of understanding reached between Government of Pakistan (G.O.R.) and Badin Block Joint Venture in November, 1987 ; and

(c) dates of discovery and commercial discovery separately in respect of these fields ?

Ch. Nisar Ali Khan : (a) Yes.

(b) the G.O.R. of producing fields in the Badin Block is :

Khaskheli	1075	Cubic feet per Barrel
Laghari	270 "
Dlabhi	1000 "
Mazari	440 "
South Mazari	230 "

The GOR of the remaining fields will be determined at the time of commencement of production. The draft Gas Price Agreement is under negotiation and Prices will be fixed after the agreement has been executed.

(c) Please see Annex. I.

Annex. I

Field	Date of discovery	Date of Commerciality submission
Khaskheli	July, 1981	February, 1982.
Laghari	September, 1983.	April, 1984.

Field	Date of discovery	Date of Commerciality submission
Tajedi	May, 1984.	November, 1985.
Golarchi	January, 1984.	March, 1988.
Dabhi	November, 1984.	June, 1985.
Mazari	June, 1985.	May, 1986.
S. Mazari	July, 1985.	May, 1986.
Sonro	August, 1985.	May, 1986.
Turk	May, 1985.	—
Nari	January, 1985.	July, 1986.
Bukhari	January, 1986.	—
Matli	June, 1986.	—
Jabo	June, 1986.	—
South Dabhi	January, 1986.	—
Makhdumpur	September, 1986.	—
Liari	October, 1986.	—
Halipota	December, 1986.	—
Gunghro	February, 1988.	—
Peniro	April, 1988.	—
Pir	April, 1988.	—

Mr. Chairman : No Supplementary. Next question No. 58, Mr. Shad Muhammed Khan.

ALLOCATION FOR TARBELA-MANGLA WATERSHED MANAGEMENT

58. *Mr. Shad Muhammad Khan : Will the Minister for Water and Power be pleased to state :

(a) the total amount allocated for the Tarbela-Mangla Watershed Management Project for the year 1984-85 to 1988-89 indicating year-wise break-up of allocation both in cash and kind, separately in each case:

(b) the total amount so far released and the balance payable to the concerned agencies ; and

(c) the time within which the balance would be paid ?

Mr. Illahi Bakhsh Soomro: (a) Total cash amount allocated by the Government of Pakistan for Tarbela-Mangla Watershed Management Project is as under :—

Year	Amount (Rs. million)
1984-85	20,000
1985-86	19,000
1986-87	22,000
1987-88	12,000
1988-89	20,000

World Food Commodities are received by the NWFP Forest Department directly from World Food Programme. WAPDA has therefore no record of year-wise allocation of kind.

(b) Total amount so far released to Tarbela-Mangla Watershed Management Project is as under :—

Releases (Rs. million)

Year	Total allocation/ release	C.C.F., Peshawar	Authority over- head & moni- toring cost
1984-85	20,000	19,394	0.606
1985-86	19,000	17,510	1,490
1986-87	22,000	20,707	1,293
1987-88	18,000	16,930	1,070

(c) Total Rs. 16.930 million have so far been released to Tarbela-Mangla Watershed Management Project as against ADP of Rs. 12.000 million for the current financial year. More funds would be released in the forthcoming year if continuation of the budget is extended beyond 30-6-1989.

جناب شاد محمد خان : جناب والا ! کیا یہ درست ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام جو جس میں امداد مہیا کرتا ہے اس کی قیمت بمشکل ۱۲ روپے ہوتی ہے جس میں مزدور کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا اس میں کوئی اضافے کی امید ہو سکتی ہے ؟

Mr. Illahi Bakhsh Soomro : Sir, if I understood rightly the honourable Senator is asking that the labour is under-paid.

Mr. Shad Muhammad Khan : Yes under the World Food Programme in which payment is made not in cash but in kind.

Mr. Chairman : What he saying is that the price of the commodity in which the labour is paid, it comes to about Rupees 12·00/- per day against the Market wage.

Mr. Illahi Bakhsh Soomro : He is saying that the labour is under paid.

Mr. Chairman : That is right, it is under paid.

Mr. Illahi Bakhsh Soomro : Well, it is not in my knowledge but I will have it looked into and if it is under paid, we will rectify it Sir.

Mr. Shad Muhammad Khan : Is it a fact Sir, that the WAPDA is not releasing the amount in cash component and the work on Watershed Management is suffering ?

جناب چیئرمین : میں آپ کا سوال نہیں سمجھا۔

جناب شاد محمد خان : کیا یہ درست ہے جناب والا؟ کہ واپڈا بروقت فنڈ مہیا نہیں کرتا لہذا واٹر شیڈ مینجمنٹ کا کام متاثر ہوتا ہے اور اس پر بڑا برا اثر پڑتا ہے۔

Mr. Illahi Bakhsh Soomro : Sir, the honourable Senator is right. This project has been delayed for the reason that it was under-funded and we are taking care of it.

جناب شاد محمد خان : شکریہ جناب۔

Mr. Chairman : Thank you, Next question No. 59, Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui.

EXPLORATION OF MINERAL RESOURCES

59. *Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui (Put by Mr. Hasan A. Shaikh) : Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to state :

(a) the steps taken by the Government or its agencies for the exploration of the mineral resources of the country during the last three years; and

(b) whether the government has any plan to enter into joint ventures with the private sector to exploit mineral deposits in the country ?

Ch. Nisar Ali Khan : (a) During the last three years Geological Survey of Pakistan has been carrying out extensive and intensive field and laboratory studies for coal exploration in different parts of Punjab, NWFP & Baluchistan, Cement resources in D. I. Khan and Rawalpindi Division, Geochemical prospecting for Chalcophile Elements in Abbottabad, Tectonic and Mineral Appraisal studies in Northern Areas and Sulphite Mineralization in Gilgit. In addition field and laboratory investigations are in progress in collaboration with National, International Agencies for Appraisal of mineral Resources in Azad Kashmir, Metallic Minerals in Waziristan and Lead and Zinc prospects in Baluchistan.

Similarly during this period Pakistan Mineral Development Corporation (PMDC) carried out exploration work for Coal in Sor-Range, Degari, Baluchistan and drilling in Lakhra Coal Field, Sindh to prove reserves in the area.

(b) PMDC is negotiating joint venture agreements with private parties for the development and exploitation of its leases of china clay in Nagarparker and those of coal in Lakhra coal field for power generation.

Mr. Hasan A. Shaikh : Has the Government conducted a survey to know the total available mineral wealth in the country ?

جناب چیئرمین : یہی تو سوال تھا۔

Mr. Hasan A. Shaikh : The answer has not been given.

Mr Chairman : The question was about the steps taken by the government or its agencies for the exploration of the mineral resources of the country during the last three years ; and this is what has been answered that 'yes' this is the attempt and these are the steps that have been taken to discover more minerals.

Mr. Hasan A. Shaikh : The question is whether the government has taken a survey for the purpose of determining total mineral resources of the country. I must tell you Sir, I have been asked to put these questions by the questioner and therefore, I am not fully aware of this.

Ch. Nisar Ali Khan : Do, I read out the answer Sir ?

Mr. Chairman : No, the answer has been taken as read. I think, he is asking a supplementary question. What exactly was the question ?

Mr. Hasan A. Shaikh : Has the Government conducted a survey to know the total available mineral wealth in the country ?

Ch. Nisar Ali Khan : Sir, I understand what the honourable member wants. The point he has made is quite relevant and quite right. Unfortunately inspite of the tremendous potential of mineral resources which Pakistan is said to have, we have not really been able to exploit it. There are a number of reasons for this and I will not go into the details because of obvious reasons i.e., lack of time is one but the efforts made in this regard have been spelled out in the answer. We are making efforts to activate the mineral development side. We are trying to in that context activate the various organizations related to the mineral development side, Geological Survey of Pakistan is one, Mineral Development Corporation is the other and most important we are in the process of formulating a new Pakistan Mineral Development Policy. In fact the draft is ready. There are certain details ; we have already had meetings on that and a few details are

left to be sorted out with the Provincial Government and once the Mineral Development Policy is out, I am sure it will give a big boost to the development of the mineral resources in Pakistan. We also suffer from a lack of financial resources. In this context we are encouraging the private sector and at the same time also we are discussing the avenues of foreign investment and foreign co-operation in the mineral development sector of Pakistan.

Mr. Chairuan : Is there no annual report published either by your Ministry or by the Geological Survey of Pakistan with regard to the availability of various types of minerals in various parts of the country along with their quantities and the potential for commercial exploitation ?

Ch. Nisar Ali Khan : Sir, the Geological Survey of Pakistan has produced this report annually.

Mr. Chairman : And if that is placed on the Table of the House, I think, (interruption).

قاضی عبداللطیف : ضمنی سوال - جناب والا ! ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو تحقیقات کی گئی ہیں اس کے نتائج کیا ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مغل کوٹ داربن درہ بعید میں پٹرول کے متعلق کیا کوئی معلومات آپ کو ہیں -

چوہدری نثار علی خان : ان کے آخری سوال کا پہلے جواب دینا ہوں جہاں تک پٹرول کی معلومات کا تعلق ہے وہ تو وہاں جب تک drilling شروع نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں مل سکتیں مگر فرنٹیئر میں ہم نے بڑے پیمانے پر آئل drilling کا پروگرام بنایا ہے اور اس سلسلے میں ایک باہر کی کمپنی پیٹروکنیڈین کمپنی ہے اس کو ہم نے ایک بہت وسیع ایریا میں concession بھی دے دیا ہے اور اس نے وہاں کام شروع کر دیا ہے جب اس کا Seismic Survey مکمل ہو جائے گا اس کے بعد اس ایریا میں drilling شروع ہوگی ہمیں یقین ہے اور وہ کمپنی بھی بڑی optimistic ہے مگر جیسے میں نے پہلے گزارش کی۔

[Ch. Nisar Ali Khan]

Short of drilling there is no way to find if there is oil present in a certain area.

جہاں تک سوال کے پیدے حصے کا تعلق ہے اگر یہ نیا سوال دیں تو میں انکو وہ معلومات مہیا کر سکتا ہوں۔

Mr. Hasan A. Shaikh: Supplementary, Sir.

Is it not a fact that many valuable mineral deposits which are economically viable but are being controlled by the Pakistan Mineral Development Corporation which has not taken sufficient steps to develop, they exploit the same?

Ch. Nisar Ali Khan: Sir, as I said, unfortunately, the mineral development sector side— I have no hesitation in saying it leaves a lot to be desired and inspite of the tremendous potential we have, we have not developed it and I take the responsibility myself, the Ministry takes the responsibility for that. They have not been able to really develop it. As I said, we are making efforts. The honourable member is quite right that we have not really been able to develop it. We are undertaking efforts and I do not say that we will be able to strike a very very good ground in the next few months but we are building up the administrative infrastructure and financial infrastructure whereby we can exploit those mineral resources to the best advantage of Pakistan.

Mr. Chairman: Mr. Hussain Bakhsh Bungalzai.

میر حسین بخش بنگلزئی: کیا وزیر محترم یہ بیان فرمائیں گے کہ باہر کی کمپنیوں کو ملک کے اندر معدنیات بشمول تیل تلاش کرنے یا ان کو explore کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ ان کمپنیوں کو آپ کس طرح invite کرتے ہیں اور measurements کیا ہیں۔

چوہدری نثار علی خان: Oil exploration اور Mineral development

دو قطعی طور پر مختلف فیصلے ہیں جہاں تک Oil Exploration کا تعلق ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں سمجھتا ہوں کہ

The opportunities are there and its future is extremely bright. We have a very high success rate; we have a line of companies waiting to come and be granted concessions. We have our hands full as far as oil exploration is concerned.

انشاء اللہ تعالیٰ گذشتہ ایک ڈیڑھ سال کی کارکردگی کے نتیجے میں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہماری جو ملکی ضروریات ہیں اس کا آدھا حصہ اپنی ملکی پیداوار سے پورا کر لیں۔ جہاں تک Mineral Development کا تعلق ہے جیسے میں نے گزارش کی ہے اس سلسلے میں ہمیں کافی مشکلات ہیں اور باہر کی کمپنیوں کے لیے یہاں آنے میں جو سب سے بنیادی دشواری ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا Potential ہے وہ known نہیں ہے اس سلسلے میں ہماری جو Organizations ہیں میں Pin-point نہیں کرتا۔

↓ I think, basically the Ministry is responsible for that

مگر جو بنیادی اس سلسلے میں Organization ہے وہ Geological Survey of Pakistan ہے جس کا کام ہے کہ وہ سروے کرے and to pin-point an identified area اس سلسلے میں ملک میں Mineral development side میں بہت زیادہ Potential ہے آدھے سے زیادہ حصہ ہمارے ملک کا mapped ہی نہ ہو تو باہر کی کمپنی یہاں آ کر کسی قسم کا خطرہ due to lack of information مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور ابھی جیسے میں نے گزارش کی ہے۔

We have undertaken the job at hand and *Insha Allah* over the next couple of months we will give you results.

Mr. Hasan A. Shaikh : Have you received any application from private sector for mineral development. If so, how many ?

Ch. Nisar Ali Khan: Sir, I will not be able to tell you, how many we have.

[Ch. Nisar Ali Khan]

I think, most of the applications have been restricted to the coal side, particularly in Lakarra.

Mr. Chairman: Mr. Hussain Baksh Bungalzai.

میر حسین بخش بنگلزئی: جناب محترم وزیر نے میرے سوال کا بہت عجیب جواب دیا بہر حال اس جواب سے ہاؤس کی اطلاعات میں کافی وسعت ہوگئی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ باہر کی کمپنیز کو کیا competition کی بنیاد پر کام دیتے ہیں دوچار کمپنیز آکر جس بنیاد پر compete کرتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی باہر کی کمپنی کو اپنے ملک میں Mineral تلاش کرنے کا یا explore کرنے کا کام دینے کے لئے آپ کے پاس وہ بنیاد کیا ہے

جناب چیئرمین: یہ سوالات جو آپ کر رہے ان کا دامن بہت وسیع ہے میری تجویز اور سفارش آپ کو یہ ہوگی کہ mineral کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں سب معاملے آپ اٹھائیں اور انشاء اللہ ان کے جوابات بھی آپ کو تسلی بخش طریقے پر مل جائیں گے۔ جناب قاضی عبداللطیف صاحب۔ قاضی عبداللطیف: میں آپ سے یہ دریافت کروں گا کہ درازندہ اور مغل کوٹ میں جو پہلے سروے کیا گیا تھا کیا اس کو ترک کر دیا گیا ہے۔

چوہدری نثار علی خان: جناب میں گزارش کروں گا کہ یہ مخصوص قسم کا سوال ہے اس سلسلے میں اگر ایک نیا سوال دیا جائے تو میں

اس کا جواب دے سکوں گا مگر کبھی کام چھوڑا نہیں جاتا۔ سروے کے نتیجے میں ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے میں بھی جب مکمل طور پر کوالف ہمارے سامنے آئیں گے اس کے بعد ہم اس سلسلے میں فیصلہ کریں گے۔

قاضی عبداللطیف : ڈیرہ اسماعیل خان کے لئے سیمٹ کا ایک منصوبہ تھا کیا وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔
جناب چیئرمین : میرے خیال میں اس کے لئے فریش نوٹس آپ دے دیں اس سے تو یہ سوال نہیں اٹھتا اگلا سوال۔

PROGRESS OF 3 MARLA SCHEME

60. *Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui : (Put by Mr. Hasan A. Shaikh) : Will the Minister for Housing and Works be pleased to state:

(a) the steps the government has taken to implement the Three Marla Scheme, and provide housing facilities to the people especially low-paid employees and workers; and

(b) the steps the government has taken so far to rehabilitate Katchi Abadis in each province?

Mir Hazar Khan Bijarani (Answered by Mir Afzal Khan) : (a) Implementation of Three Marla Scheme is basically a Provincial subject. However, Federal Government is collecting necessary data to evolve a comprehensive strategy and launch the Three Marla Scheme on a long-term basis. As a short-term measure, provision of three Marla Plots is being included in urban area development schemes. The low-paid employees and workers can also benefit from Three Marla Scheme as well as other housing schemes of the government.

(b) Again, it is a Provincial subject. The steps taken by the government to rehabilitate Katchi Abadis include :—

- Establishment of organizations at Federal and Provincial levels to regularize/develop Katchi Abadis etc.
- Aerial photography has been carried out to map out extent of Katchi Abadis in various cities as they existed on 23rd March, 1985.
- Legislations have been enacted in Sindh and Baluchistan, while it is near finalization in Punjab.

[Mir Hazar Khan Bijarani]

— Lands under Katchi Abadis belonging to Federal Agencies are being transferred to Provincial Governments for conferment of proprietary rights to residents of Katchi Abadis.

Mr. Chairman: Supplementary question ?

Mr. Hasan A. Shaikh: Will the Minister kindly state whether it is not a fact that the implementation of Three Marla Scheme has been stopped in various parts of the country after dissolution of elected institutions i.e., dissolution of the National Assembly and the Provincial Assemblies ?

Mir Afzal Khan: There are certain measures that the Ministry of Housing is taking and it concerns mostly the provincial governments which have taken certain steps and others are being taken.

Mr. Chairman: So, the schemes has not been dropped.

Mir Afzal Khan: No.

Mr. Hasan A. Shaikh: Sir, Three Marla Scheme was launched under Prime Minister's Five Point Programme. Then, it was the Federal Government that could do it. What is the difficulty now for the Federal Government to do it with the consent of the Provincial Governments.

Mir Afzal Khan: For this Scheme, the money has also been ear-marked for its financing by the Government of Punjab.

صوبائی حکومت نے ۵ کروڑ روپے دیئے ہیں ہاؤسنگ منسٹری نے ۵ کروڑ روپے دیئے ہیں زکوٰۃ فنڈ سے ان کو ۸ کروڑ روپے دیئے جائیں گے فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ سکیم ترک کر دی جائے۔

جناب حسن اے شیخ : تین مرلہ سکیم کے اندر ابھی تک آپ نے کتنے پلاٹ دیئے ہیں۔

جناب چیمبر مین : کیا آپ کے پاس Information ہے۔

Mir Afzal Khan: Sir, actually I am answering on behalf of Mr. Bijarani but I can say with certainty that there is a Scheme to develop these plots, Sir, firstly in the first phase at district headquarters and at the second phase at the tehsil headquarters. There is a scheme which is already under implementation in Rawalpindi. As far number of plots is concerned, 3500 plots have been launched in Rawalpindi and Lahore.

برگیڈیئر (رٹائرڈ) محمد حیات خان : اس میں اسلام آباد کو شامل نہیں کیا گیا۔ کیا اسلام آباد میں بھی تین مرلہ سکیم کچی آبادیوں کے لئے جاری کی جائے گی یا نہیں ؟

میر افضل خان : یہاں ابھی ایسی کوئی اسکیم نہیں ہے۔

جناب چیئر مین : منجنی سوال - جناب قاضی صاحب - قاضی عبداللطیف : کیا وزیر محترم یہ فرمائیں گے کہ صوبہ سرحد میں اس سلسلے میں کتنی کارروائی ہوئی ہے اور کتنے لوگوں کو پلاٹ دیئے گئے ہیں -

میر افضل خان : ابھی تک جناب تین مرلہ سکیم کے تحت ۲۶۸ پلاٹ تیار کئے گئے ہیں۔

in major urban centres of the province of NWFP.

Mr. Chairman : Next question No. 61.

SUPPLY OF ELECTRICITY TO VILLAGE 'PAKSHAHI'

61. Mr. Shad Mohammad Khan : Will the Minister for Water and Power be pleased to refer to reply to part (b) of the Question No. 141 orally answered in the House on 21-1-1988 and state :

(a) whether it is a fact that after the sanction to electrify village "Pakshahi" 22 main line poles were installed for the same purpose ; and

(b) whether it is also fact that the village has not been given electricity so far ; and if so, the reason for the slow progress ?

Mr. Illahi Buksh Soomro: (a) 50 Nos. LT structures and 20 Nos. HT. structures have been installed in village Pakshahi.

(b) Electrification of village Pakshahi has since been completed in June, 1988 and taken over by Operation Division WAPDA. So far no application; for electric connection has been received.

جناب شاد محمد خان : کیا وزیر صاحب نے اس بات کی تحقیقات کریں گے کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ اب بھی وہ میٹر میں سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے ، سڑانسفار میں بھی سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے اور جب کام نامکمل ہے تو اوپریشن ڈویژن کو گاؤں کس طرح منتقل کیا گیا ، لہذا میں کہتا ہوں کہ جواب درست نہیں ہے ، کیا آپ اس کی انکوائری کریں گے ؟

Mr. Illahi Bakhsh Soomro : Sir, thank you very much. I am very unhappy to find out as to why my answer before this House is incorrect and I will institute inquiries right away to find out whether my honourable colleague is right or I have been supplied with incorrect information.

Mr. Shad Muhammad Khan : Thank you.

Mr. Chairman : Next question No. 62.

POWER GENERATION BY PRIVATE COMPANIES

62. *Mr. Muhammad Tariq Chaudhry : Will the Minister for Water and Power be pleased to state:

(a) the number and names of private companies which have applied for permission to generate electricity, with dates of their applications;

(b) the number of companies granted permission for power generation so far; and

(c) the number of companies which have been refused such permission?

Mr. Illahi Bakhsh Soomro : (a) The following 13 companies have applied for permission to generate electricity:—

	<i>Date/Month of application</i>
1. M/s. Hydro-power (Army Welfare Trust) Dec., 1985.
2. M/s. HML/Siemens April, 1986.
3. M/s. Xenel and Hawker Siddeley Aug./Sep, 1987.

4. M/s. Pak Foundry, Lahore	June, 1987.
5. M/s. Fauji Foundation on imported coal Revised for oil	Nov., 1984. Feb., 1988.
6. M/s. Darwaza	May, 1987.
7. M/s. Babcock International, Canada	Feb., 1988.
8. M/s. Pakland Bechtel and Pyropower	Aug., 1987.
9. M/s. Enpak	Dec., 1987.
10. M/s. Inter Redic and Intrag	April, 1988.
11. M/s. Fecto	Aug., 1986.
12. M/s. Pakland/Hawker Siddeley	May, 1988.
13. M/s. International Power Housing (IPH)	Oct., 1987.

(b) Letters of intent were issued to four of them on the dates shown against each:—

	<i>Date of letter of intent</i>			
1. M/s. HML/Siemens	11-11-1987
2. M/s. Xcnel	27-4-1988
3. M/s. Hawker Siddeley	27-4-1988
4. M/s. Fecto	13-5-1988

(c) No company has been refused permission. However, the companies who have not been issued letter of intent are the one whose tariff rate is much higher than the rates approved by the government. In case they reduce their rates within acceptable range their proposals will be entertained within the frame-work of guide-line approved by the government. These proposals are under discussion with sponsors by WAPDA and Ministry for bringing the rates within approved limits.

جناب چیئرمین: کوئی ضمنی سوال - جناب طارق چوہدری صاحب۔

جناب محمد طارق چوہدری: جناب! اس کا جواب ہی لا جواب ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔

جناب چیئرمین۔ جواب ہی لا جواب ہے، شکریہ! اگلا سوال۔

ELECTRIFICATION OF VILLAGE BADDU CHEEDA (SIALKOT)

63. *Prof. Khurshid Ahmed (Put by Mr. Muhammad Tariq Ch.): Will the Minister for Water and Power be pleased to state:

(a) the expected time by which the village Cheeda Khurd near Cheeda, Kot Arian, Baddu in Tehsil Narowal, Distt. Sialkot will be electrified;

(b) the total number of persons from the said village who have applied for the grant of meters and the date by which the meters would be provided to them;

(c) whether it is a fact that sub-standards electric wiring has been carried out at village Agu-Wala situated in the said tehsil and if so, its reasons; and

(d) the total number of electric poles installed in the said village?

Mr. Illahi Bukhsh Soomro: (a) Villages Cheeda Khurd, Kot Arian, and Baddu in Tehsil Narowal, District Sialkot have since been electrified during 11/87, 10/87, 11/87, respectively.

(b) 257 persons have applied for the grant of meters. The meters are expected to be installed up to 31-7-1988.

(c) No.

(d) Ten No. poles have been installed, 2 No. are High Tension for 11 KV line and 8 No. are Low Tension for 400 Volt line.

جناب چیدر مین : اگلا سوال نمبر ۶۶ پر پروفیسر خورشید احمد۔

PLOTS/HOUSES ALLOTTED ABOVE ENTITLEMENT

64. *Prof. Khurshid Ahmed (Put by Mr. Hasan A. Shaikh). Will the Minister for Housing and Works be pleased to state:

(a) the total number of plots allotted on the orders or recommendations of the Federal Minister for Housing and Works since January, 1986, together with the names of the persons to whom allotted, the city or town in which allotted and the size of the plots and the terms and conditions on which allotted; and

(b) the names of the persons who have been allotted government owned houses one, two or three steps above their entitlement on the orders or recommendations of the Federal Minister for Housing and Works during the above period with reasons for such orders separately in each case?

Mir Hazar Khan Bijarani : (a) Nil.

(b) The names of the persons who have been allotted accommodation above their entitlement on sympathetic grounds keeping in view of their special circumstances by Federal Minister for Housing and Works since January, 1986, may be seen at Annexure 'A'.

Annexure A

THE LIST INDICATING THE NAMES OF THE PERSONS WHO HAVE BEEN ALLOTTED GOVERNMENT OWNED HOUSES ABOVE THEIR ENTITLEMENT ON THE ORDERS/RECOMMENDATIONS OF THE FEDERAL MINISTER FOR HOUSING AND WORKS SINCE JANUARY, 1986

Sl. No.	Name	Sl. No.	Name	Sl. No.	Name
1.	Mr. Aziz Ahmed.	42.	Mr. Mohammad Yunis Khan.	81.	Mst. Sarwar Jhon.
2.	Mr. Noor Ahmed.	43.	Mr. Asghar Ali Shah.	82.	Mr. Mohammad Iqbal.
3.	Mr. Pervez Khan.	44.	Mr. Mumtaz Khan.	83.	Mr. Shaukat Sadiq.
4.	Mr. Abdul Rehman.	45.	Mr. Mohammad Shafi.	84.	Mr. Sahib Khan.
5.	Mr. Mohammad Yasin.	46.	Mr. Huq Nawaz.	85.	Mr. Mohammad Saeed.
6.	Mr. Ghulam Haider.	47.	Mr. Hashim Khan.	86.	Mr. Ayaz Khan.
7.	Mr. Bashir Ahmed.	48.	Mr. Mohammad Rehman.	87.	Syed Intizar Hussain.
8.	Mr. Mohammad Tariq.	49.	Mr. Mohammad Iqbal.	88.	Mr. Mohammad Jamil.
9.	Mr. Zulfiqar.	50.	Mr. Mohammad Eyaz Khan.	89.	Mr. Wasim Bari.
10.	Mr. Mohammad Bashir.	51.	Mr. Islam Din.	90.	Mr. Ejaz Haider.
11.	Mr. Zafar Iqbal.	52.	Mr. Mohammad Haroon.	91.	Mr. Mohammad Salim Butt.
12.	Mr. Mohammad Jamil.	53.	Mrs. Kanez Iqbal.	92.	Mr. Alaf Din.
13.	Mr. Abdul Waheed.	54.	Mr. Multan Khan.	93.	Mr. Abbas Ali.
14.	Mr. Mohammad Akram.	55.	Mr. Ghulam Rubani.	94.	Mr. Hafiz Mohammad Ikramul Haq.
15.	Mst. Bilqees Akhtar.	56.	Mr. Mohammad Nawaz.	95.	Mst. Taslim Kausar.
16.	Mr. Jehanzeb.	57.	Mr. Mohammad Bashir.	96.	Mr. Mohammad Abdullah.
17.	Mr. Mohammad Ashraf.	58.	Mr. Umer Hayat.	97.	Mr. Shakeel Ahmed.
18.	Mst. Sarwar Jan.	59.	Mr. Naseerullah.	98.	Mst. Salim Begum.
19.	Mr. Gul Mohammad.	60.	Mr. Mohammad Anwar.	99.	Mr. Mohammad Riaz.
20.	Mr. Mohammad Saleem.	61.	Mr. Abdul Rehman.	100.	Mr. Ayaz Ahmed Khan.
21.	Mr. Jahangir Akbar.	62.	Mr. Mustajeb.	101.	Mr. Javed Akhtar.
22.	Mr. Farahuddin.	63.	Mr. Mohammad Zahoor.	102.	Mr. Abdul Rashid.
23.	Mst. Bushra Bibi.	64.	Mr. Ghulam Mohammad.	103.	Mr. Ishtiaq Ahmed.
24.	Mr. Mohammad Qasim.	65.	Mr. Anjum Nazir.	104.	Kazi Ghulam Rabani.
25.	Mr. Mohammad Afsar.	66.	Mr. Ghulam Ahmed.	105.	Mr. Abdul Aziz.
26.	Mr. Anwar Hussain.	67.	Mr. Rehmatullah.	106.	Mr. Mohammad Sarwar.
27.	Mr. Khan Mohammad.	68.	Mr. Ali Zar Khan.	107.	Mr. Noor Ahmed.
28.	Mr. Nazar Khan.	69.	Mr. Khadim Hussain.	108.	Mr. Mohammad Rafiq.
29.	Mr. Gulzar Khan.	70.	Mr. Iftikhar Hussain.	109.	Mr. Mohammad Nasim Khan.
30.	Mr. Mohammad Yasin.	71.	Mr. Bashir Ahmed Abbasi.	110.	Mr. Mohammad Javed Abbasi.
31.	Mr. Allah Dita.	72.	Mr. Faqir Mohammad.		
32.	Mr. Mohammad Suleman.	73.	Mr. Mohammad Elahi.		
33.	Mr. Mohammad Nazir.	74.	Mr. Tehzeeb Hussain Shah.		
34.	Mr. Lal Zada.	75.	Mr. Abdul Wahid.	111.	Mr. Maqsood Alam.
35.	Mr. Qasid Khan.	76.	Mr. Mohammad Aftab.	112.	Mr. Shamrez Khan.
36.	Mr. Mohammad Nazir.	77.	Mr. Ghulam Sarwar.	113.	Mr. Mohammad Elahi.
37.	Mr. Hasan Khan.	78.	Mr. Anwar Hussain.	114.	Mr. M. Faqir Mashii.
38.	Mr. Mohammad Saddique.	79.	Mr. Mezhar Hussain.	115.	Mr. M. Akhtar Butt.
39.	Mr. Lal Badshah.	80.	Mr. Ghulam Akbar.	116.	Mr. M. Muzaffar.
40.	Mr. Haq Nawaz.				
41.	Mr. Abdul Ahad.				

Sl. No.	Name	Sl. No.	Name	Sl. No.	Name
117.	Mr. Ghulam Akbar Shah.	163.	Mr. Mohammad Aslam	205.	Mr. Masud Aslam.
118.	Mr. Fazal Qadir.		Shah.	206.	Mr. Moinuddin Ahmad
119.	Mr. Mohammad Akhtar.	164.	Mr. Matiur Rehman.		Siddiqui.
120.	Syed Khalil Badshah.	165.	Mr. Inwar-ul-Islam.	207.	Mr. Iftikhar Ahmed.
121.	Mr. Mohammad Ayub.	166.	Mr. Sahimullah Khan.	208.	Mr. Rana Sarfaraz Tariq.
122.	Mr. Mohammad Iftikhar.	167.	Mrs. Fahmeda Begum.	209.	Mr. Mudassar Iqbal.
123.	Mr. Mohammad Fayyaz.	168.	Mr. Kifatullah.	210.	Mrs. Rana Asad.
124.	Mr. Mohammad Afzal Khan.	169.	Mr. Iftikhar Hussain.	211.	Mr. Muhammad Aziz
125.	Miss. Negmana Sher.	170.	Miss. Kausar Parveen.		Mian.
126.	Mr. Pervez Iqbal.	171.	Mst. Sabia Shaheen.	212.	Mr. Muhammad Amin.
127.	Mr. Iftikhar Khan.	172.	Mr. Salman Haider.	213.	Mr. Faheem Ahmad.
128.	Mr. Allah Dita Munghajo.	173.	Mr. Abdul Mnum.	214.	M/s Wasim Akhtar Qureshi
129.	Mr. Khaliq-uz-Zaman.	174.	Syed Jawaid Azhar.		& Saeed Akhtar Qureshi.
130.	Mr. Mohammad Asghar Malik.	175.	Mst. Khurshid Aziz.	215.	Mr. M.Irfan Khan.
131.	Mr. Jahanzeb Khan.	176.	Mr. Abu Zafar Sadiq.	216.	Mrs. Khalida Saeed.
132.	Mr. Illouddin.	177.	Mr. Tariq Mahmood.	217.	Mr. Muhammad Yasin.
133.	Mr. Tawakl Khan.	178.	Miss. Kalsoom Barlas.	218.	Mr. M. Akram Bajwa.
134.	Mr. Amir Taj Ali.	179.	Mr. Khaliquddin.	219.	Mr. A. Khan.
135.	Mr. Zarwab Khan.	180.	Mr. Shujjaat Ali Khan.	220.	Mr. Muhammad Arif.
136.	Mr. Mohammad Hanif.	181.	Mr. Khalid Mahmood	221.	Mr. Sabir Zaman.
137.	Mr. Sabiul Hussan.		Kisana.	222.	Miss. Hamida Khatoon.
138.	Mr. Mohammad Irfan Shahid.	182.	Mr. Mohammad Tahir.	223.	Mr. Mohammad Rashid.
139.	Mr. Mohammad Arif.	183.	Syed Zahid Hussain.	224.	Mr. Mohammad Arshad
140.	Mr. Mohammad Yousaf.	184.	Mr. Muhammad Anwar.		Majid.
141.	Mr. S.M.H. Farukh.	185.	Mr. Allauddin.	225.	Mr. Mohammad Akhtar.
142.	Mr. Mohammad Imran.	186.	Miss. Fozia Siraj.	226.	Miss. Farha Sultana.
143.	Mr. Saeed Afzal.	187.	Mr. Muhammad Ali.	227.	Mr. (Syed) Qabal Shah.
144.	Mr. Asghar Ali.	188.	Mr. Saeed Akhtar.	228.	Mr. Sharafat Ali.
145.	Mr. Mumtaz Nasir.	189.	M/s Lal Khan Chokidar	229.	Mr. Naseem Khalid.
146.	Mr. Mohammad Rafiq.		and Khushal Khan Mate.	230.	Miss Bushra Yasin.
147.	Mr. S. Ali Jaffar.	190.	Miss. Afshan Sattar.	231.	Mr. M. Ata-ur-Rehman.
148.	Mr. Tariq Mahmood.	191.	Mr. Muhammad Abbas.	232.	Mrs. Seema Jamil.
149.	Mr. Mahmud Ismail.	192.	Mr. Muhammad Ramzan.	233.	Mr. Zulfiqar Ali Shah.
150.	Mr. Nasir Nabi Qureshi.	193.	Mr. Muhammad Sabir.	234.	Mr. Shahid Mobashir.
151.	Mr. Tariq Hussain.	194.	Mr. Muhammad Hussain.	235.	Mr. M. Anwar Baig.
152.	Mr. Sharraz.	195.	Mr. Naseeruddin.	236.	Mr. Shaukatullah Khan.
153.	Mr. Muhammad Ihtiaz.	196.	Syed Waqar Yousuf.	237.	Mr. (Mirza) Ali Khan.
154.	Mr. Muhammad Rashid.	197.	Mr. Sultan Muhammad	238.	Mr. Abdul Matin Khan.
155.	Mr. Arsad Mahmood.		Khan.	239.	Mr. Mohammad Rafaqat.
156.	Mr. Muhammad Aslam.	198.	Mr. Muhammad Farooq	240.	Mr. Said Ahmad Tawqer.
157.	Mr. Abdul Waheed Shah.		Ahmed.	241.	Mr. M. Khan Jasra.
158.	Mr. Khalid Mahmood.	199.	Mr. Shabbir Ahmed	242.	Mr. Mohammad Ajmal.
159.	Mr. Zaffar Iqbal.		Khatana.	243.	Mr. Irfan Rashid.
160.	Miss. Rizwana Jalil.	200.	Mr. Abdul Karim Khan.	244.	Mr. Mahboob Alam.
161.	Mr. Abdul Zakauallah.	201.	Mr. Muhammad Arshad.	245.	Mrs. Atiyatul Hussain.
162.	Miss. Rahana Saqi.	202.	Mr. Irfan Hussan.		Rizvi.
		203.	Mr. S.M. Abdullah.	246.	Mr. (Syed) Salman Kaukab.
		204.	Mr. Aftab Alam.	247.	Mr. Shahid Hamid Kiyani.

Sl. No.	Name	Sl. No.	Name	Sl. No.	Name
248.	Mrs. Rukhsana Arshad.	280.	Mr. M. Shaban Uppal.	311.	Mr. Manzoor Ali Khan.
249.	Mr. Sultan Hamid Qureshi.	281.	Mr. Aziz-ur-Rehman Gondal.	312.	Mr. S. Waheed Rizvi.
250.	Mr. Abdul Mustann.	282.	Mr. Mohammad Irshad.	313.	Mr. Javed Chishti.
251.	Mr. Ghulam Nabi Naseem.	283.	Mr. Zafar Hussain.	314.	Mr. (Dr.) Nazar Hussain.
252.	Mrs. Shaheen Iqbal.	284.	Mr. (Qari) M. Younas.	315.	Mr. (Dr) Gul Mohammad.
253.	Mr. Zaheer Ahmad Khan.	285.	Mr. S. Shabir Ahmed.	316.	Mr. Zainul Abadin.
254.	Mr. Mohammad Riaz Hussain.	286.	Mr. Mohammad Yamin.	317.	Mr. S. Tanveer Ahmed.
255.	Mr. Mohammad Yasin Gohar.	287.	Mr. Mansoor Muzaffar Ali.	318.	Mr. Amir Nawaz Khan.
256.	Mr. S. Nabil Iqbal Gilani.	288.	Mr. Shahnawaz Mahasar.	319.	Mr. M. R. Ayubi.
257.	Mr. M. Tariq Pervez.	289.	Mr. Fazal Elahi.	320.	Mr. Khalid Nasir.
258.	Mr. Mukhtar Abbas.	290.	Mr. Akhtar Aman.	321.	Mr. Shabaz Qureshi.
259.	Mr. Abdullah Khan.	291.	Mr. Naveed Salimi.	322.	Mr. Iftikhar Aziz Ahmed.
260.	Mr. Nasir Mahmood.	292.	Mr. Mossa Raza Afandi.	323.	Mr. Abdul Majid.
261.	Mr. Khairullah.	293.	Mr. Jehandad Khan.	324.	Miss. Naseema Mazhar.
262.	Mr. Hafiz Noor Ahmed.	294.	Mr. (Dr.) Zaitoon Kazi.	325.	Mr. Mohammad Raza Khan.
263.	Mrs. Amjadi Khatoon.	295.	Mr. Bashir Ahmed Bhatti.	326.	Mr. (Dr.) Rashid Ahmed.
264.	Mr. (Syed) Arab Shah.	296.	Mrs. Shahida Waseem.	327.	Mr. Sajid Hussain.
265.	Mrs. Riaz Begum Alvi.	297.	Mr. Fazulur Rehaman.	328.	Mr. (Mian) Tayyab Hussain.
266.	Mr. Mohammad Saeed.	298.	Mr. Sharafat Hussain Niazi.	329.	Mr. S. Samiullah.
267.	Mrs. Abida Khatoon.	299.	Miss. Mehboob Hashmi.	330.	Mr. A. Rehman Malik.
268.	Mr. Hasan Abbas Naqvi.	300.	Mr. M. B. Awan.	331.	Mr. Nisar Ali Agha.
269.	Mr. Javed Habib.	301.	Mr. Mehr Sher Mohammad.	332.	Mr. (Khawaja) Ijaz Sarwar.
270.	Mr. Shoaib Bashir Khan.	302.	Mr. (Dr.) Zafar Naeem.	333.	Mr. M. Arif Saeen.
271.	Mr. (Mian) Ali Mohammad.	303.	Mr. Rahat Zafar.	334.	Mr. Abdus Shaheed.
272.	Mr. Mohammad Jamil.	304.	Mr. Najamuddin Mangrio.	335.	Mr. A. Sattar Mansoori.
273.	Mr. Mohammad Iqbal.	305.	Mr. Khurshid Ahmed.	336.	Miss. Farida Sultana.
274.	Mrs. Mussarat Sikandar.	306.	Mr. Rashid Ahmed.	337.	Mr. Imamuddin Siddique.
275.	Mr. Mohammad Azam.	307.	Mr. Iftikhar Ahmed Khan.	338.	Mr. Irshad Mahmood Khanzada.
276.	Mr. Shahzad Ahmed.	308.	Mr. S. Mazhar Hussain.	339.	Mr. Sultan Sikandar.
277.	Mr. (Mian) Muazam Shah.	309.	Mr. Ashiq Hussain Sagi.	340.	Mr. Abdul Rahim.
278.	Mr. S. M. Tahir.	310.	Mr. Sultan Ahmed Khan.	341.	Mr. Mohammad Yaqub.
279.	Mr. (Dr.) Mohammad Wajid Iqbal.				

Mr. Hasan A. Shaikh : Sir, the annexure does not give the names of places where these plots have been allotted.

Mr. Chairman : I agree with you. The answer to that extent is incomplete. Not only does it not give the names of places but also the size of the plots and the terms and conditions on which they were given. So, the reply is incomplete. I think the question should be deferred for completion of the reply to the next date.

Next question.

PENSIONARY RIGHTS FOR EMPLOYEES OF REPCO

65. *Prof. Khurshid Ahmed (Put by Mr. Hasan A Shaikh) : Will the Minister for Water and Power be pleased to state the names of those employees of REPCO Electric Company, Rawalpindi who, after REPCO was taken over by WAPDA had either retired on 1-7-1979 or died after having completed 25 years service but were not allowed pensionary benefits with reasons therefor separately in each case ?

Mr. Illahi Bukhsh Soomro : The information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as received.

جناب چیئر مین : اگلا سوال ، حاجی سعد اللہ صاحب ، سوال نمبر ۶۶۔

CONSTRUCTION OF A STADIUM IN FATA

66. *Malik Haji Saadullah Khan : Will the Minister for Culture, Sports and Tourism be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct standard stadiums for sports in all the agencies of FATA : if so, the number of stadiums proposed to be constructed during the current fiscal year and if not, the reasons thereof?

Haji Malik Faridullah Khan : There is a proposal for the construction of a stadium at Parachanar/Sadda, for which PC-I form is awaited from P&D Department ; NWFP:

جناب چیئر مین : شکریہ ! ضمنی سوال - کوئی نہیں ہے ۔ اگلا سوال
حاجی سعد اللہ خان صاحب ، سوال نمبر ۶۷۔

GOODWILL DELEGATIONS SENT ABROAD FROM FATA

67. *Malik Haji Saadullah Khan : Will the Minister for Culture, Sports and Tourism be pleased to state :

(a) the total number of cultural and goodwill delegations sent abroad from FATA since 1981 : and

(b) whether it is a fact that persons belonging to North Waziristan were also included in these delegations. If so, the number of such persons and if not the reasons therefor ?

Haji Malik Faridullah Khan : (a) Nil.

(b) No, This Ministry is mainly concerned with cultural delegations. Such delegations are usually exchanged to negotiate or sign cultural agreements and protocols, to attend conferences/joint committee meetings. The delegations comprise concerned officials and eminent personalities in the field of art and culture regardless of the place of their domicile.

جناب چیئر مین : جناب لایکا صاحب ۔

Mr. Alam Ali Laleka : Will the Minister for Sports & Tourism be pleased to answer whether the dancers or other cultural persons are considered as traditions of certain particular area.

اس میں جتنے بھی لوگ بھیجے جاتے ہیں ، یا تو مغنیہ ہوتے ہیں۔ یا گلوکار ہوتے ہیں ، ثقافت کی نمائندگی ، جس کا ذکر حاجی ملک فرید اللہ صاحب نے کیا ہے ، میرے خیال میں کسی علاقے کے لوگوں کا اس پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مغنیہ یا گلوکاروں کا ہے ، یہ لوگ بھی اپنی ثقافت کو اتنا ہی پیش کرتے ہیں جتنا مغنیہ یا گلوکار کرتے ہیں۔

Mr. Chairman : I think you are offering your opinion and your comments. It is not a question. Next question No. 68.

SPORTS COMPLEX, QUETTA

68. ***Mr. Abdur Rehman Jamali :** Will the Minister for Culture, Sports and Tourism be pleased to state the estimated cost of the under construction Sports Complex at Quetta and the probable date of its completion ?

Haji Malik Faridullah Khan : (a) The revised cost of the project has been estimated at Rs. 16.171 million.

(b) The project is expected to be completed in December, 1988.

جناب عبدالرحمان جمالی : کیا وزیر موصوف صاحب یہ فرمائیں گے کہ یہ پراجیکٹ کون سی کمپنی یا فرم کے پاس ہے اور اس کی تکمیل میں تاخیر ہونے کی کون سی وجوہات ہیں۔
جناب چیئرمین : جناب ملک فرید اللہ صاحب۔

حاجی ملک فرید اللہ خان : جناب ! یہ منصوبہ 8.3 hundred

million Rupees کی لاگت سے ۲۳ جنوری ۱۹۸۳ء کو منظور

ہوا اور اس پر کام اکتوبر ۱۹۸۴ میں شروع ہوا۔ اس منصوبہ

[Malik Faridullah Khan]

کے لیے اب تک ۱۰۶۷۷ ملین روپے دیئے گئے ہیں اور اس میں بین الاقوامی معیار کے دو سکواش کورٹس ، جن میں پانچ سوا فراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے ، ایک minihall پبلک اور وی آئی پی گیلری ، اور اس سے منعلقہ سہولتیں کو چنگ روم ، ایک جمینزیم ہال ، جن میں دو ہزار تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے ، شامل ہیں۔ موجودہ مالی سال میں بھی اس کے لیے ۳۶۵ ملین روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔

جناب چیئرمین : غالباً سوال کا ایک جزویہ بھی تھا کہ کس کمپنی کو یہ کام دیا گیا ہے۔

حاجی ملک فرید اللہ خان : جناب ، کمپنی کا علم تو نہیں ہے، یہاں نہیں لکھا گیا ہے لیکن اگر جمالی صاحب پوچھنا چاہیں تو لجر میں بتا دیں گے۔

جناب چیئرمین : میرے خیال میں اگر جمالی صاحب اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ فریش نوٹس دے دیں۔

حاجی ملک فرید اللہ خان : وہ فریش نوٹس دے سکتے ہیں لیکن اس پر already کام شروع ہے۔

جناب چیئرمین : شکریہ۔ اگلا سوال نمبر ۷۰

PAT FEEDER CANAL, BALUCHISTAN

70. *Mr. Abdur Rehman Jamali : Will the Minister for Water and Power be pleased to state :

(a) when the work on the project of digging, clearing and widening of the canal 'Pat Feeder' of Baluchistan will be started ; and

(b) the names of the companies undertaking the work of the said project ?

Mr. Illahi Bukhsh Soomro : (a) Work on digging and widening of main Pat Feeder canal is expected to start by later half of 1989 whereas work on Nasirabad distributory which is also a part of Pat Feeder Canal Rehabilitation and improvement project will be taken up by end of this year (1988).

(b) The consultants are preparing criteria for pre-qualification for selection of contractors/companies.

Mr. Chairman : Any supplementary ?

(Pause)

No supplementary. Next question.

ELECTRIFICATION OF KOT NAJIBULLAH

71. ***Mr. Shad Muhammad Khan :** Will the Minister for Water and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that power lines have not been extended to the Nai Abadi Mohallah Azizabad, village Kot Najibullah (Tehsil Haripur Hazara) ; if so; and

(b) the time by which WAPDA will instal electric poles in the said village ?

Mr. Illahi Bukhsh Soomro : (a) Pipe to pipe connections have been provided in new Abadi of Mohallah Azizabad of Village Kot Najibullah, Tehsil Haripur. Renovation estimate has been prepared and under process.

(b) Pipe to pipe service will be replaced by laying structures and proper LT lines. The work will be completed in the first quarter of current financial year.

جناب چیئر مین : ضمنی سوال -

جناب شاد محمد خان : جناب والا ! یہ پائپ سے پائپ کنکشن کے وجہ سے load بہت کم آتا ہے ۔ ڈیڑھ ماہ تو پہلی سہ ماہی موجودہ مالی سال کا گزر چکا ہے اور ڈیڑھ ماہ تقیباً رہ گیا ہے ۔ تو کیا آپ ہدایت جاری کریں گے تاکہ وہ اس وقت میں مکمل کر لیں تاکہ لوگوں کی تکالیف کا ازالہ ہو ۔

جناب چیئر مین : جناب الہی بخش سومرو صاحب -

Mr. Illahi Bakhsh Soomro : Sir, I have already submitted that it will be done during the first quarter of this financial year and *Insha Allah* we will complete it within the remaining one and a half months, Sir.

Mr. Shad Muhammad Khan : Thank you, Sir.

جناب چیئرمین : شکریہ ! میرے خیال میں ہاؤس اگر اس پر غور کرے کہ یہ جو اس طرح کے سوالات میں جو ایک particular village میں بجلی دینے کے متعلق ہو ایک محلے کے متعلق ہو جس میں عام ہاؤس کو interest نہیں ہونا بلکہ ایک constituency کو یا جس constituency کو نمبر represent کرتا ہے۔ اس کا interest ہونا ہے۔ کیا وہ directly اگر منسٹر کو لکھے، منسٹر صاحبان اس کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ ان کو جواب دیں تو پھر اگر آپس میں کوئی بحث مباحثہ ہونا ہے یا افہام و تفہیم کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی ہاؤس سے باہر منسٹرز کے ہاں ہی settle ہو جائے۔ بجائے اس کے کہ ہم سب اس پر اتنا وقت صرف کریں۔ زیادہ اصحاب کو اس سے کہ "پکشا ہی گاؤں" میں کیا ہو رہا ہے دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ سوچ لیں اگر آپ کو منظور ہے تو اس سے ہاؤس کا بہت سارا وقت اور کام بچ جائے گا۔

قاضی عبداللطیف : آپ کا ارشاد بجا ہے۔ لیکن عام طور سے تجربہ یہ ہے کہ اس اعتماد کے باوجود بھی غالباً "جواب" نہیں ملتا۔ اور کوئی کارروائی بھی نہیں ہوتی۔ تین سال سے میرا ایک گاؤں ہے اس کو نہ آج تک بجلی ملی ہے اور نہ ہمیں دوبارہ جواب دیا گیا ہے۔ ایک گاؤں میں نے دیا تھا۔ اس کو آج تک نہ بجلی دی گئی ہے

اور نہ مجھے جواب دیا گیا ہے۔ تو صورت یہ ہوتی ہے کہ عموماً جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ چونکہ دفتری بات ہوتی ہے۔ اور دفتری routine ایسی میں چلی جاتی ہے۔

جناب چیئرمین: ہمیں اسی لئے میں نے عرض کیا ہے کہ اس طرح کا حل کوئی تو ضرور آپ لائیں۔ بلکہ آپ کا حق ہے ہاؤس کا حق ہے اگر آپ کو مکمل جواب نہیں دیا جائے گا یا بروقت جواب نہیں دیا گیا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ڈھوک رہ گیا ہے یہ تو سومرو صاحب جانیں اور لالیکا صاحب جانیں۔ لیکن باقی ہاؤس کو اس میں کیا interest ہو سکتا ہے کہ ڈھوک طالبی ہے یا کچھ اور ہے کب اس کو بجلی ملے گی یا نہیں ملے گی آپس میں یہ طے کر لیں۔ تو میں نے اس لئے ایوان کا وقت بچانے کے لئے کہا تھا۔ باقی اگر آپ اسی سسٹم کو continue رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، شکریہ!

IMPLEMENTATION OF RESOLUTION REGARDING TRANSFER OF RESIDENTIAL QUARTERS IN G-6, ISLAMABAD

6. Prof. Khurshid Ahmed: Will the Minister for Housing and Works be pleased to state:

(a) the progress made so far on the implementation of the Resolution passed by the Senate of Pakistan regarding the sale of residential quarters in sector G-6, Islamabad to their occupant government servants on ownership basis;

(b) whether any scheme is under consideration of the government to regulate transfer of government houses to the retired government employees or to those employees who expired while in service; and

(c) if answer to (b) above be in the negative, whether government has any scheme under consideration for transfer of above houses to its employees on easy instalments on humanitarian grounds?

Mir Hazar Khan Bijarani : (a) The resolution has not so far been implemented.

(b) No such scheme is under consideration.

(c) At present, no such scheme is under consideration.

TRANSFER OF GOVT. QUARTERS TO OCCUPANTS OF G-6, ISLAMABAD

1. **Prof. Khurshid Ahmed :** Will the Minister for Housing and Works be pleased to state :

(a) whether the government had decided in the year 1983-84 to transfer proprietary rights in government quarters situated in sector G-6 to the government servants occupying them ; and

(b) if the answer to (a) is in the affirmative, the detailed reasons thereof ?

Mir Hazar Khan Bijarani : (a) No.

(b) No comments in view of the position stated at (a) above.

PROPOSAL OF SINGLE STOREY HOUSES INTO DOUBLE STOREY HOUSES

3. **Prof. Khurshid Ahmed :** Will the Minister for Housing and Works be pleased to state whether it is a fact that the single storey government-owned houses in sector G-6, Islamabad are being converted into double storey to implement the proposal ?

Mir Hazar Khan Bijarani : No. There is no such proposal under consideration in this Division.

LEAVE OF ABSENCE

جناب چیئرمین : جناب قاضی حسین احمد صاحب نے اپنی مصروفیات کی بنا پر ایوان سے حالیہ مکمل اجلاس کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا ایوان ان کی رخصت منظور کرتا ہے۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین : جناب اختر نواز خان اپنے کسی عزیز کی وفات پر گاؤں چلے گئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایوان سے ۲۰، اور

۲۱ جولائی کی رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا ایوان ان کی رخصت منظور کرتا ہے۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین : جناب عالم علی لالیکا نے چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایوان سے ۲۸ جولائی کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے کیا ایوان ان کی رخصت منظور کرتا ہے۔ ۲۸ جولائی کو شایہ sitting نہ ہو۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین : جناب محسن صدیقی صاحب نے چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایوان سے ۲۰ اور ۲۱ جولائی کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا ایوان ان کی رخصت منظور کرتا ہے۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین : جناب سلطان علی لاکھانی نے چچا کی وفات پر ایوان سے ۲۰ جولائی تا اختتامِ حالیہ اجلاس رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا ایوان ان کی رخصت منظور کرتا ہے۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین : جناب پروفیسر خورشید احمد صاحب نے ایوان سے اپنی مصروفیات کی بنا پر ۲۱ جولائی کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا ایوان ان کی رخصت منظور کرتا ہے۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین : جناب صاحبزادہ یعقوب خان نے اطلاع دی ہے کہ وہ سرکاری دورے پر واشنگٹن اور ماسکو جا رہے ہیں۔ اس لیے وہ ایوان میں ۲۲ جولائی تا ۲۶ اگست شرکت نہیں کر سکیں گے۔ اطلاع آئی ہے۔

اسی طرح جناب نسیم احمد آپیر صاحب وزیر داخلہ نے اطلاع دی ہے کہ وہ ۲۱ تاریخ کو سرکاری کام کی وجہ سے اسلام آباد سے باہر ہوں گے لہذا وزارت داخلہ سے متعلق تجارتی التوا آئندہ اجلاس تک موخر کر دی جائیں۔ اطلاعاً عرض ہے۔

POINT OF ORDER, *Re* : INTERPRETATION OF THE CONSTITUTION

Mr. Javed Jabbar : Point of order Mr. Chairman. Mr. Chairman, I believe that as a result of the Address by the President yesterday to the Senate a certain question arises which is connected to your ruling given two days earlier and I do not wish to discuss your ruling, but I would like to point out Mr. Chairman, that the President in his wisdom has chosen to interpret the meaning of the Constitution. Whereas if I recollect correctly in your ruling you were very clear that the interpretation of the Constitution is the duty, the sole prerogative of the judiciary.

Mr. Chairman : As far we are concerned, as far this House is concerned....

Mr. Javed Jabbar : May I complete my submission Mr. Chairman ?

Mr. Chairman : Yes please.

Mr. Javed Jabbar : Now, the President is also part of Parliament and in that capacity he chose to take Parliament into confidence or use the forum of Parliament to address the nation. Now, in doing that Mr. Chairman, he has either interpreted the Constitution personally or publicly, as the case may be, but certainly has involved the legislature. Now, I think, it raises a very substantive issue that within 24 hours of your ruling on this very issue the Head of State interprets the Constitution which touches upon two very fundamental aspects of the Constitution. Can the period specified in the Constitution for the holding of an election be ignored by an individual reading of the Constitution and No. 2 Mr. Chairman, Article 86 which concerns the period of validity of any budget authorized at a time when the National Assembly stands dissolved was also not touched upon during the honourable President's Address. Now, I would seek your guidance on this matter. Do you believe that your ruling covers both these

points adequately or would you permit these questions to be raised through separate privilege motions or through any other motion that you deem fit ? Because I believe Sir, that consequent to your ruling these two new issues have emerged, thank you.

Mr. Chairman : My ruling only pertains to the three privilege motions which were moved in this House and the points which were raised or made in the course of the discussion on that. The ruling only pertains to the powers which this House has with regard to the interpretation of the Constitution or the statutes. We have every right to interpret the Constitution as well as the statutes to the extent that they effect the proceedings of this House. Beyond that and we have repeatedly said, it is the responsibility of the judiciary to interpret them. We have no authority, we have no *locus standi*. The President is no doubt is a part of the *Mailis-e-Shoora* but he is not a part of this House. He is entitled to address this House and his address, if you wish, can be discussed also but beyond that he had nothing to do with my ruling and I have nothing to do with what the President presented to this House. It was an address to the House to which he is entitled under the Constitution. That address normally should be laid on the Table of the House and if the members so wish it can also be discussed as is the normal practice. But beyond that I think it would not be correct to link up my ruling with the President's Address.

POINT OF ORDER; *Re* : LAYING OF PRESIDENT'S ADDRESS
ON THE TABLE OF THE HOUSE

Mr. Javed Jabbar : Thank you. Mr. Chairman, then could one ask whether the President's Address is being laid on the Table of the House ?

Mr. Chairman : That is, I think, for you and for the Minister of Justice. It should ordinarily be laid on the Table of the House, that is true.

Mr. Javed Jabbar : The Minister is again missing Mr. Chairman, I mean this is the point that we would like clarification on. So, if you could kindly before this sitting concludes today let us know whether the President's Address will be laid on the Table of the House.

Mr. Chairman : When the Minister is here, I would ask him, but ordinarily when the President formally addresses a House and the House was addressed under Article 56 (1), a copy of the Address should be laid on the Table of the House. Whether it should be debated or discussed that is then entirely for the House and that can be done on the basis of a motion but not otherwise. But a copy of the Address should ordinarily be laid on the Table of the House.

Mr. Ahmed Mian Soomro : Sir, it is our right to have, as you have rightly pointed out, the Address because we would through a vote of thanks like to discuss the Address. You may direct the government to place it on the Table of the House.

Mr. Chairman : I don't think I have said anything to the contrary.

Mr. Ahmed Mian Soomro : You have left it to the sweet will

(Interruption)

Mr. Chairman : Well, this is what I have said.

Mr. Hasan A. Shaikh : I think, Sir, you have powers to direct the Minister concerned to lay it on the Table of the House because he has committed a default and you should bring it to his notice that he should not continue with that default.

Mr. Chairman : Well, there comes the Minister and he can speak for himself, I think, more eloquently than I can do. But ordinarily when a House is addressed by the Head of the State or by the President, his Address is laid on the Table of the House and then it becomes the right of the House to discuss that by means of a vote of thanks.

Mr. Wasim Sajjad : Sir, I take it as the desire of the members that it should be placed on the Table of the House, we will do that.

Mr. Chairman : I think, it is the normal constitutional practice to lay the Address of the President.

Mr. Wasim Sajjad : Sir, as a special gesture to the honourable members I will place it on the Table of the House.

Mr. Hasan A. Shaikh : No, no, when it is normal practice; why as a special gesture ?

Mr. Wasim Sajjad : No, Sir, the Rules do not permit it that is why I am saying 'as a special gesture'.

Mr. Chairman : No, no, I don't think so.

Mr. Hasan A. Shaikh : No, no, that is all over the world.

Mr. Wasim Sajjad : If you observe that the rules also permit it then we will have to place it on the Table of the House.

Mr. Chairman : The Rules certainly permit and the Rules provide for this.

Mr. Wasim Sajjad : There is no dispute Sir, we will place it on the Table of the House.

Mr. Javed Jabbar : Mr. Chairman when ?

Mr. Chairman : Please no further arguments.

(Interruption)

I remember we had specially provided for that.

Mr. Javed Jabbar : We would have liked it to be laid this morning.

Mr. Chairman : Rule 29 says : "An Address by the President under Clauses (1) and (3) of Article 56", [and before you came in I have clarified that

the President had addressed the House under Article 56 (1)]shall be discussed by means of a motion of thanks.

Further it says :

“.....as soon as may be, after the Address of the President, a Minister shall lay a copy of the Address”.

Mr. Wasim Sajjad : So, Sir, there is no dispute, it is very clear.

(Interruption)

Mr. Chairman : So, kindly place it on the Table of the House.

Mr. Wasim Sajjad : As soon as we can get an authentic copy, I will place it on the Table of the House.

Mr. Chairman : Right.

Mr. Ahmed Mian Soomro : Point of order Sir. What about the last inconclusive Address ? Are we ever going to end that item of the agenda which you have started.

Mr. Wasim Sajjad : Yes.

Mr. Ahmed Mian Soomro : Address of March—only the reply is to be made.

Mr. Chairman : Well, the debate on that was concluded, only a reply by the Minister is to be made.

Mr. Ahmed Mian Soomro : Let us finish and dispose of that item.

Mr. Wasim Sajjad : I think, the events have overtaken that Address but if the honourable members want that a formal conclusion should be made, we will do that.

ADJOURNMENT MOTIONS

Mr. Chairman : Right. Next Adjournment Motions.

Mr. Javed Jabbar : We have submitted an application Mr. Chairman, to move a motion out of turn on the situation in Sind.

Mr. Aijaz Ali Khan Jatoi : I have also moved the same application Sir.

Mr. Chairman : Before we come to that. I will just like to remind Mr. Tariq Chaudhry who has been taking special interest in these ethnic riots what Ghalib had said :—

دوست غم خواری میں میری سعی فرمائیں گے کیا
زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھ آئیں گے کیا

[Mr. Chairman]

حالت یہ ہو رہی ہے کہ جن زخموں کا آپ مداوا چاہتے ہیں اس سے پہلے ہی ناخن بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ابھی تک اپریل ۸۸ کی تحریک التواء جو خورشید احمد صاحب کی ہے۔ محمد طارق چوہدری کی ہے

on the worsening law and order situation

اس کے بعد پھر طارق چوہدری صاحب کی ہے

on the Ethnic riots occurring in Hyderabad.

پھر ایک یہ جاوید جبار صاحب کی ہے on the frequent bank robberies in Karachi

پھر ایک دو اور ہیں اس کے لیے میرے خیال میں کوئی اور طریقہ کار نکالنا پڑے گا۔

قاضی عبداللطیف : میری بھی ایک ہے۔

جناب چیئرمین : جی آپ کی بھی ایک ہے۔ کراچی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن ملاکنڈ ایجنسی سے ہے۔ یہی لاء اینڈ آرڈر کے متعلق ہے۔

جناب محمد طارق چوہدری : جناب چیئرمین! اناسب کو اگر اکٹھا ایک ہی دفعہ لے لیا جائے تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائیگا۔ یہ ایک ہی نوعیت کی ہیں

جناب وسیم سجاد : جناب والا! یہ دو تین اور چار اور اس کے بعد

نو دس گیارہ بارہ تیرہ اور اس کے بعد چودہ سے نیکر بیس تک۔ یہ بنیادی طور پر اسی لاء اینڈ آرڈر سے ڈیل کرتی ہیں اگر جناب ان کو اکٹھا لے لیں تو میرے خیال میں حکومت کی جانب سے کوئی اعتراض نہیں ہو گا اس کو آپ ایڈمٹ کر لیں اور اس پر بحث کی اجازت دے دیں۔

جناب چیئرمین : بنیادی طور پر تو یہ امن و امان کا ہی سوال ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اور وزیر صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو بے شک اس کو ہم admit کر لیتے ہیں۔
 جناب محمد طارق چوہدری : زیادہ بہتر صورت ہے۔

Mr. Javed Jabbar : Mr. Chairman, are you including the adjournment motions on the attack on the Mayor of Hyderabad.

Mr. Chairman : Yes please.

Mr. Javed Jabbar : So, therefore, you could take it under the broad category, I suppose the present situation in Sind.

Mr. Chairman : As far law and order is concerned that will include the bank robberies as well.

(Interruption)

It is a part of the law and order and it is the provincial responsibility to control all this. So, these motions No. 14 'Ethnic Riots in Hyderabad and Karachi', No. 15 'On the attack on the Mayor of Hyderabad, Sind' and the subsequent ethnic losses in Hyderabad, No. 16 to the same effect, No. 17, to the same effect, Nos. 18, 19, 20 by Qazi Abdul Latif Sahib, Eijaz Ali Jatoi Sahib, Ahmed Mian Soomro Sahib and Javed Jabbar Sahib, including, I think, the call attention notice because the admissibility of that is also governed by the same conditions as an adjournment motion, so that can also be included.

Mr. Javed Jabbar : My call attention notice Sir.

Mr. Chairman : Yes, that notice in a sense would be withdrawn and it would be covered by that motion.

Akhunzada Behrawar Saeed : I have also given.

جناب چیئرمین : جی کیا اسی سبجیکٹ پر ؟

اخونزادہ بہرہ ور سعید : جی ہاں۔

جناب چیئرمین : اخونزادہ بہرہ ور سعید صاحب - غالباً اس

لیئے آپ نظر انداز ہو گئے کہ آپ فرنٹ بینچر پر بیٹھ نئے میرا خیال تھا ممکن ہے کوئی۔۔۔۔

(مداخلت)

Mr. Chairman :

So, you have no objection to these be discussed in the House.

Mr. Wasim Sajjad : No Sir.

Mr. Chairman : Then I think, the formal permission of the House is not required because everybody agrees. So, it is a question now when do we fix the date for discussion if the Minister is ready.

Mr. Wasim Sajjad : Sir, this will be handled by the Interior Minister and he will need sometime.

Mr. Chairman : This is one of the problems.

Mr. Javed Jabbar : Mr. Chairman, we could take it now.

Mr. Chairman : No, no, as an adjournment motion we have to fix it for a two hours discussion at the end of the sitting and already there is one adjournment motion coming for that type of discussion.

Mr. Javed Jabbar : Mr. Chairman, we have gotten eight to ten days break ahead of us which will take away the urgency of the situation which is very tense at the moment. This is the time when it needs to be clarified by the government.

Mr. Chairman : But even so in the absence of the Minister concerned. I think, there is nothing much, I don't know but if you as Minister for Parliamentary Affairs.

Mr. Wasim Sajjad : Not only Sir, the Minister would like to make a statement but also get details on these adjournment motions. I am sure the House would like some more detail other than what is available in the Press and therefore, appropriately I think, sometime should be given to him so that he can answer the points raised by the honourable members more effectively. Because I don't think the idea is just to have a debate and talk about it and finish it. I am sure they would like him to take some action, to give them some more details, what has been done, what should be done, all these matters, I think, are very serious matters and he should be given time for that.

جناب اعجاز علی خان جتوئی : پوائنٹ آف آرڈر۔ کتنا ٹائم لگے

گا۔ جناب پرسوں جب ہم نے move کیا تھا تو اس وقت حیدرآباد میں صورت حال یہ تھی کہ آٹھ دس آدمی روز مر رہے تھے۔ کرنیو کے دوران لوگوں کے گھر لوٹے جا رہے تھے۔

جناب وسیم سجاد : جناب والا ! اگر تقریر سے صورت حال

بہتر ہوتی ہے تو بے شک کر لیں۔

جناب اعجاز علی خان جنٹوئی : ڈسکشن کے لیے آپ کب تک ٹائم دیں گے ؟

جناب چیئر مین : میرے خیال میں جو وزیر صاحب فرماتے ہیں اس میں کچھ وزن ہے۔

جناب اعجاز علی خان جنٹوئی : جناب پرسوں یہاں وزیر داخلہ صاحب بیٹھے تھے۔۔۔۔

جناب چیئر مین : اگر وہ کسی کام کے لئے فرض کیا حیدر آباد گئے ہوں تو کیا ان کا یہاں بیٹھنا بہتر تھا کہ محض تقریریں سنتے یا physically وہ کام کرتے کہ وہ افساد کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے۔ بہر حال میرے خیال میں

we will fix it for the next official day whenever it is. So, these motions stand admitted for two hours discussion when we meet next for official business.

Mr. Javed Jabbar : From the honourable Minister Sir, there seems to be a strange aversion to speeches what is being suggested that Parliament should sit silent. I think we should bring in some kind of gag and sit silently so that he does not have to listen to any speeches.

Mr. Wasim Sajjad : Sir, this is incorrect assumption, I enjoy speeches of Mr. Javed Jabbar and of myself Sir, I enjoy both speeches.

Mr. Ahmed Mian Soomro : What about others ?

Mr. Chairman : Right, I think, no discussion of this type.

جناب اعجاز علی خان جنٹوئی : یہ کب رکھا ہے آپ نے ؟
جناب چیئر مین : جب ہم آئندہ meet کریں گے۔

Mr. Aijaz Ali Khan Jatui : Sir, there will be ten days from today.

Mr. Chairman : So what ?

جناب اعجاز علی خان جنوٹی : بیچ میں ، میں سمجھتا ہوں کہ طویل وقفہ آجائے گا۔ دو تین ہزار آدمی اور مر جائیں گے۔

جناب چیئرمین : خدا نہ کرے دو تین ہزار آدمی مر جائیں۔
 جناب اعجاز علی خان جنوٹی : روزانہ کی routine اسی طرح چل رہی ہے۔ بڑی serious صورت حال ہے۔ گورنمنٹ پتہ نہیں کہیں نہیں سمجھ رہی ہے۔

جناب چیئرمین : سمجھ رہی ہے۔ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں اسی لئے تو انہوں نے اس کو بحث کے لئے منظور کیا ہے۔
 جناب اعجاز علی خان جنوٹی : میں اس پر احتجاجاً واک آؤٹ کرتا ہوں۔

جناب چیئرمین : یہ آپ کی مرضی ہے۔

(جناب اعجاز علی خان جنوٹی واک آؤٹ کر گئے)

Mr. Javed Jabbar : I would like to protest not against you, Mr. Chairman, but against the inability of the government to make even a short statement on a situation which is so bad for our province. It is no disrespect to you, but it is a protest against the attitude of the government that the Minister for Interior is not even present today. Mr. Chairman, we had given notices of these motions over ten days ago. He could have adjusted his travel schedule to be able to be present in the House, and at least answer us but instead he simply disappears at a time when people are dying in Sind.

Mr. Chairman : If you want to register a protest, this is your right. You can certainly do it.

جناب محمد طارق چوہدری : حکومت کے اس تساہل اور نااہلی پر میں بھی ان کا ساتھ دیتا ہوں (اس کے بعد جناب محمد طارق چوہدری جناب جاوید جبار اور اعجاز علی خان جنوٹی ایوان سے واک آؤٹ کر گئے)

Mr. Chairman : Next Item 3—Brig. (Retd.) M. Hayat.

MOTION UNDER RULE 171(1)

Brig. (Retd.) M. Hayat : Sir, I move :

“That under Rule 171(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1988, the time for presentation of report of the Standing Committee on the Pakistan Press and Publications (Amendment) Bill, 1986, be condoned till today”.

The motion moved is :

“That under Rule 171(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1988, the time for presentation of report of the Standing Committee on the Pakistan Press and Publications (Amendment) Bill, 1986, be condoned till today”.

It is being opposed ?

Mr. Wasim Sajjad : No, Sir.

Mr. Chairman : Then the question is :

“That under sub-rule (1) of Rule 171 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1988, the time for presentation of report of the Standing Committee on the Pakistan Press and Publications (Amendment) Bill, 1986, be condoned till today”.

(The motion was adopted).

Mr. Chairman : The delay stands condoned.

Next Item—4.

THE REPORT OF THE STANDING COMMITTEE—LAID

Brig. (Retd.) M. Hayat : Sir, the report on the Pakistan Press and Publications (Amendment) Bill, of the Standing Committee 1986 is laid on the Table of the House.

Mr. Chairman : The report of the Standing Committee on the Pakistan Press and Publications (Amendment) Bill, 1986, has been laid on the Table of the House.

Next Item 5—Mr. Wasim Sajjad.

LIST OF PROPOSED STANDING COMMITTEES—LAID

Mr. Wasim Sajjad : Sir, with your permission I beg to lay on the Table of the House a list of the Standing/Functional Committees as envisaged by rules 140, 141, 142, 143, 145, 147 and 149 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1988, for composition and election of these committees by the House.

Mr. Chairman : A list of the proposed Standing Committees as envisaged by rules 140, 141, 142, 143, 145, 147 and 149 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1988 for composition and election of these committees is laid.

Mr. Wasim Sajjad : Sir, with your permission I beg to move—

“That the Standing/Functional Committees as envisaged by rules 140, 141, 142, 143, 145, 147 and 149 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1988, be composed and elected as per list laid on the Table of the House”.

Mr. Chairman : The motion moved is :

“That the Standing/Functional Committees as envisaged by rules 140, 141, 142, 143, 145, 147 and 149 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1988, be composed and elected as per list laid on the Table of the House”.

I think, we will take up each committee separately. Well, the lists are being circulated.

Mr. Aijaz Ali Khan Jatoi : Point of order, Sir.

جناب میرا نام اعجاز احمد جتوئی نہیں، اعجاز علی جتوئی ہے، ٹیلیویشن والوں کے لیے بھی اخبار والوں کے لیے بھی۔ اس دن بھی آپ نے تقریر کے لیے میرا نام غلط لپکرا تھا۔

جناب چیئرمین : اچھا، یہ بتادیں نام کچھ لمبے ہوتے جاتے

ہیں یہاں پر اعجاز علی خان جتوئی ہے۔

جناب اعجاز علی خان جتوئی : پیدائشی نام یہی ہے۔

جناب وسیم سجاد - خان بھی ہے جناب۔

جناب اعجاز علی خان جتوئی : جی ہاں خان بھی ہے۔

جناب چیئرمین : اچھا خان بھی ہے، وہ میں نے اس نے کہا کہ

ہمارے دوسرے محترم دوست نہیں ہیں حاجی محمد فرید اللہ خان

وہ نام اتنے تک تو ٹھیک تھا، لیکن حاجی ملک فرید اللہ خان یسج میں اب

add ہو گیا ہے وزیر، تو وزیر اس کی ^{tribe} بھی ہے اور وزیر اب

ان کا پروفیشن بھی ہے۔ بہر حال شکریہ !

Mr. Chairman : Have you all got the lists ? Shall we take them up one by one?

Right. Standing Committee No. 1—Cabinet, Establishment and O. & M. Divisions. Is it approved ?

(The committee was approved)

Mr. Javed Jabbar : Sir, I don't know whether the list accurately, I am sure, does try to reflect what the members have said but in view of the very poor attendance in the House, today, are we sure that some members who wanted to be on a certain committees have been able to communicate this to the honourable Minister ? For instance, on one of the committees I don't see the name of certain gentlemen who had clearly said that he wants to be there. So, would you rather leave this to the next sitting or you want to take it up ?

Mr. Chairman : I want to finish it.

As far as we are concerned, as long as the quorum is there, whether members are present or absent, it doesn't make any difference.

Mr. Wasim Sajjad : Sir urgency was expressed by my honourable friend Mr. Javed Jabbar himself. It is for this reason that I did not want to hold it back.

(Interruption)

Mr. Javed Jabbar : I am very grateful Mr. Minister.

Mr. Chairman : Right. Next one. Standing Committee No. 2—

One thing I can tell you that these lists have been prepared in the light of the preferences which were conveyed to us by the members much earlier and it is quite possible that the member who may have opted for one committee or two committees, it may not have been possible for us to accommodate them in all those committees because you cannot be a member of more than two committees or three committees at a time. But every effort has been made to keep their options in mind before finalizing them in the manner they have been done. *(Interruption)*

Yes, three, not more than three. I think ordinarily two but not more than three.

Mr. Sartaj Aziz : My name appears on four. So, I don't know who has done that ?

Mr. Chairman : Which means that you have probably exercised your options for more than one.

Mr. Sartaj Aziz : No, no. That is true but it was in order of preference.

Mr. Chairman : Right.

Mr. Sartaj Aziz : So, one will have to bear with where his name appears in more than four committees.

Mr. Wasim Sajjad : No, no. It is a normal rule, Sir, that it should normally be not more than two.

Mr. Chairman : This is what I remember that not more than two, normally.

Mr. Wasim Sajjad : Normally, not more than two. So, it is not a violation; it is an exceptional consideration for the honourable Minister.

Mr. Chairman : Anyway. We will come to that. If you want to resign from any of these committees after you are elected that is entirely up to you.

Committee No. 2—Defence, Defence Production and Aviation. Any objection ?
No. Is it approved ?

(The committee was approved).

Mr. Chairman : Committee No. 3—Commerce, Industries, Production, Communications and Railways. Is it approved ?

(The committee was approved).

Mr. Chairman : Committee No. 4—Petroleum and Natural Resources and Water and Power. Is it approved ?

(The committee was approved)

Mr. Chairman : Committee No. 5—Finance and Economic Affairs, Planning and Development, Statistics and Population Welfare. Is it approved ?

(The committee was approved).

Mr. Chairman : Committee No. 6—Foreign Affairs, Kashmir Affairs and Northern Areas and States and Frontier Regions.

Mr. Javed Jabbar : About Committee No. 6, Mr. Chairman, I am very worried because I have to share this Committee with three Ministers. Is that not too heavily weighted in favour of the Treasury Benches ?

Mr. Chairman : No, they are not here as Ministers; they are here as Senators. There is only one Minister and he will be the Minister concerned.

سید فصیح اقبال : میری ترجیحات میں مذہبی امور نہیں تھا لیکن انہوں نے مذہبی امور اور دوسرے میں لگایا حالانکہ میں نے امور خارجہ کے لیے opt کیا تھا کیونکہ میرا سارا scope of interest فارن ایئرز میں ہے

Mr. Chairman : Well is it acceptable to the House that his (Syed Faseih Iqbal) name should also be added to the Foreign Affairs Committee ?

Mr. Wasim Sajjad : No objection.

Mr. Chairman : Then we will include you (Syed Faseih Iqbal) also in the Foreign Affairs Committee. Is it approved ?

(The committee was approved)

Mr. Chairman : Next Committee No. 7.—Information and Broadcasting, Culture, Sports and Youth Affairs and Tourism and Women Division. Is it approved ?

(The committee was approved)

Mr. Chairman : Approved.

جناب حسن اے شیخ : ویمین ڈویشن میں ہماری ایک ہی لیڈی ممبر ہیں وہ بھی اس میں نہیں ہیں۔

Mr. Wasim Sajjad : Good suggestion. We will put her (Dr. Noor Jehan Panezai) on it.

Mr. Chairman : I think we can add. There are only ten members in this Committee, so we have a lot of.

گنجائش

قاضی عبداللطیف : جناب والا! میرا نام ۸ نمبر میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آیا ہے۔

جناب چیئرمین : اس پر بعد میں آتے ہیں۔ پہلے یہ ۷ کا فیصلہ ہو جائے

قاضی عبداللطیف : اس کی بجائے میرا نام اگر اطلاعات و نشریات میں آجائے۔

جناب چیئرمین : جی ٹھیک ہے۔

جناب وسیم سجاد : ویمین ڈویشن میں بھی اگر قاضی صاحب کا نام آجائے تو اچھا ہے۔

Mr. Chairman : Is it acceptable that the only lady member in the House should be included in the Committee on Women Division ?

Mr. Wasim Sajjad : Yes.

جناب چیئرمین : ڈاکٹر نور جہاں پانیزمی کو ویمین ڈویژن میں ڈال دیتے ہیں۔ جی قاضی صاحب آپ فرمائیے۔

قاضی عبداللطیف : سائنس و ٹیکنالوجی کے بجائے اطلاعات و نشریات کی کمیٹی میں میرا نام شامل کر لیا جائے۔

جناب چیئرمین : کس کی بجائے ؟

قاضی عبداللطیف : سائنس و ٹیکنالوجی کی بجائے ؟

جناب چیئرمین : میرے خیال میں اس میں تعلیم بھی ہے۔ صرف سائنٹیفک اور وہ نہیں اور تعلیم میں تو آپ کا بہت ہاتھ ہونا چاہیے۔

قاضی عبداللطیف : چیلو ٹھیک ہے۔

Mr. Muhammad Ali Khan : My name has been put wrongly in Committee No. 8. I only write plain Muhammad Ali Khan.

Mr. Chairman : Not 'Hoti'.

Mr. Muhammad Ali Khan : No, Sir.

Mr. Chairman : All right, we will cut that out.

Mr. Javed Jabbar : Sir, are there any restrictions on the number of committees to which people can be elected ?

Mr. Chairman : Ordinarily we have tried actually to limit them to two and in one case they have gone up to three. This is the first time that it has brought to my notice that Mr. Sartaj Aziz is on four committees.

Mr. Javed Jabbar : And Mr. Wasim Sajjad is also on four or five committees.

An Honourable Senator : No, as a member he is only on two committees.

Mr. Javed Jabbar : Because if there is no restriction then one would like to volunteer for another committee, Mr. Chairman.

Mr. Chairman : That is true but we have tried to restrict them to keep everybody busy also. We have also tried to keep in mind the potential contribution which the members can make to the work of various committees.

Mr. Sartaj Aziz : I would also Mr. Chairman suggest that I should not do more than three. So, I should be allowed to withdraw from Committee No. 1 because Agriculture is my subject, there is one more Committee and then I am on the Privileges Committee. So from Committee No. 1 relating to O & M and Establishment my name can be withdrawn.

Mr. Chairman : Right. So we will delete your name from Committee No. 1 although it has been approved and we should not be going back.

قاضی عبداللطیف : اگر جناب والا! یہ گنجائش ہے تو خارجہ امور کشمیر و شمالی علاقہ جات میں، میں اپنا نام داخل کرنا چاہتا ہوں۔

Mr. Chairman : If the House approves. مجھے کوئی اعتراض نہیں۔

Mr. Wasim Sajjad : Approved.

Mr. Chairman : Right. Then we take up Committee No. 9.

ایک معزز سینیٹر : میرا نام کمیٹی نمبر ۳ میں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ Committee on Problems of Less-Developed Areas میں بھی میرا نام آجائے۔ کیونکہ ہمارا علاقہ

جناب چیئرمین : وہ آگے ابھی آئے گا۔ جی بہرہ ور سعید صاحب۔

اخونزادہ بہرہ ور سعید : میں عرض کروں گا کہ جسٹس اینڈ پارلیمنٹری افیئرز میں میرا نام بھی شامل کیا جائے تو اچھا ہوگا۔

جناب چیئرمین : آپ کا نام مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے ہاؤس کو منظور ہے۔ بہرہ ور سعید صاحب کو جسٹس اینڈ پارلیمنٹری

افیئرز میں ڈال دیتے ہیں۔ to do his professional justice.

Mr. Sartaj Aziz : I will suggest Mr. Chairman, that as a result of these additions, ordinarily honourable members should be on two committees but maximum we should not be on more than three committees. So, any honourable member whose

[Mr. Sartaj Aziz]

number goes beyond three committees should kindly volunteer to indicate from where his name should be deleted.

Mr. Chairman : Right.

Akhunzada Behrawar Saeed : Sir, my name has been included or not ?

Mr. Chairman : Yes, your name is being included in Committee No. 9 on Justice and Parliamentary Affairs.

جناب اعجاز علی خان جتوئی : اس میں اگر احمد میاں سومرو صاحب کو بھی رکھ دیں تو بہتر ہوگا۔ جسٹس اینڈ پارلیمنٹری افیئرز میں۔
جناب چیئرمین : سومرو صاحب کو

Mr. M. Munir Afridi : Sir, I would like to have my name in the Committee on Commerce instead of the Committee on Establishment.

جناب چیئرمین : اسٹبلشمنٹ کا کوئی تو والی وارث ہونا چاہیے۔ کافی ممبرز ہیں۔ کامرس میں آپ کا نہیں ہے۔
جناب محمد منیر آفریدی : کامرس میں نہیں ہے۔

Mr. M. Munir Afridi : No. my name is not in Commerce but I had applied for that. I am on Foreign Affairs Committee, that is good enough. The other one, if possible should be on Commerce.

(Interruptions)

Mr. Chairman : Let us finish with Mr. Munir Afridi first.

Is it acceptable ?

(Accepted)

Mr. Ahmed Mian Soomro : I also want to be there in Commerce.

Mr. Chairman : You want to be there also ?

Mr. Ahmed Mian Soomro : Yes, Sir.

Mr. Chairman : Right.

Mr. Hasan A. Shaikh : Point of order, Sir. I am referring to Committee No. 9 relating to Justice & Parliamentary Affairs. The 'Minister concerned' is already there. Is it necessary to have him by name also because in the list at S. No. 4 the name of Mr. Wasim Sajjad is again there.

Mr. Chairman : The 'Minister concerned' is a Caretaker Minister and the moment you refuse to give him the authority to take care of your affairs then he remains only a Senator.

Mr. Hasan A. Shaikh : All right, I have no objection. I thought that it was probably a mistake.

Mr. Chairman : Right.

We move next to Committee No. 10—Interior, Labour, Manpower and Overseas Pakistanis. Is it approved ?

(The Committee was approved).

Mr. Chairman : approved.

جناب محمد منیر آفریدی : سر میرا نام کامرس کی کمیٹی میں شامل کر لیں۔

جناب چیئر مین : کامرس میں آپ کا نام شامل کر دیا ہے۔

Mr. M. Munir Afridi : O. K. Thank you.

Mr. Chairman : Mr. Munir Afridi's special interest is in Insurance which is a part of Commerce, so I think it would be a good thing if we have him on that Committee.

Next Committee No. 11—Food and Agriculture, Livestock, Agricultural Research, Local Government and Rural Development.

Arab Noor Muhammad : I wish that my name should be included in Committee No. 11.

جناب چیئر مین : آپ اور کس کمیٹی میں ہیں

جناب ارباب نور محمد : ایک اور میں ہوں۔

جناب چیئر مین : ایک اور میں ہیں اور یہ دوسری ہو جائے گی۔

Mr. Chairman : Any objection ?

(Approved)

Mr. Chairman : Right.

ارباب نور محمد کو شامل کر لیتے ہیں۔

Mr. Alam Ali Laleka : May I request that I may be included in Committee No. 11 by virtue of the fact that I am an agriculturist by profession.

جناب چیئر مین : آپ اور کس میں ہیں -

Mr. Alam Ali Laleka : I am on Committee No. 8 relating to Education, Scientific and Technological Research. I have no objection to that and I think I could render also more service to Agriculture.

جناب چیئر مین : صرف ایک کمیٹی میں ہیں -

جناب عالم علی لالیکا : صرف ایک میں ہوں -

Mr. Chairman : All right. We can keep you on Committee No. 11 also.

جناب اصغر علی شاہ : سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف

اے و س میں کمیٹی میں ایک میں ہو سکتا ہے یا پھر فنکشنل کمیٹی کے ساتھ ملا کر پھر یہ تین ہو سکتا ہے .

جناب چیئر مین : میرے خیال میں فنکشنل کمیٹی ملا کر تین سے زیادہ

بہیں ہونا چاہیے -

جناب اصغر علی شاہ : اس کو ملا کر -

Mr. Chairman : Next Committee No. 12—Health, Works Environment, and Urban Affairs, Special Education and Social Welfare.

Brig. (Retd.) Muhammad Hayat : Sir, I would like my name to be included in Committee No. 12 instead of Committee No. 7 relating to Information where I have little interest.

Mr. Chairman : Anybody volunteering for the Committee on Information ?

(Interruptions)

Mr. Aijaz Ali Khan Jatoi : Sir, I should be put on Interior as well.

(Interruptions)

Mr. Chairman : All right. Mr. Aijaz Ali Jatoi can be put on the Committee on Information and Brig. Muhammad Hayat can be shifted to Committee No. 12.

Mr. Muhammad Ali Khan : Sir, I propose that Mr. Javed Jabbar may be placed on Committee No. 12 because he happens to be Chairman of the Special Committee on Medicines, and he is doing a lot of work in this connection.

Mr. Chairman : He has done some good work on that Committee but the only point is that on how many other Committees he is ?

Mr. Javed Jabbar : I am already on three but perhaps I could attend some of the meetings by invitation because of the need to follow up the committee proceedings.

Mr. Chairman : Well that of course is always possible. By invitation anybody can attend, that is always possible and I think people with specialized knowledge of a particular subject ordinarily they should be invited to discussion on that particular subject in a committee.

Next we take up Functional Committees of the Senate.

No. (i) is Committee on Government Assurances.

Mr. Sartaj Aziz : Mr. Chairman, I would submit that my name should be deleted from this committee because I want to be added to the next Committee on Problem of Less-Developed Areas. That is the preference I had shown. So, my name may be deleted from here.

Mr. Chairman : Is that acceptable to the House ?

(Accepted)

Mr. Chairman : Right.

Nawabzada Jehangir Shah : Sir, I may also be included in the Committee on Problems of Less-Developed Areas.

جناب چیئر مین : آپ اور کتنی کمیٹیز میں ہیں ؟

Nawabzada Jehangir Shah : Two more. This is the third one.

Mr. Chairman : So, we will have you on the Committee on Problems of Less-Developed Areas.

Mr. Sartaj Aziz : and.....

Committee on سید اصغر علی شاہ : اگر ہو سکے تو میں
میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ Problems of Less-Developed Areas

Mr. Chairman :.....in the Committee on Problems of Less-Developed Areas.

ایک معزز رکن : اس میں بھی ۱۳ اراکین ہو گئے ہیں۔
جناب چیئرمین : (سید اصغر علی شاہ سے مخاطبت ہوتے ہوئے)
 اس میں پھر زیادہ اراکین ہو جائیں گے۔

ایک معزز رکن : اس میں ایک رکن نکل گیا ہے۔
جناب چیئرمین : Committee on Government Assurances میں سے
 ایک نکل گیا ہے ، اس طرح وہ بارہ رہ گئے ہیں ، سرتاج
 عزیز صاحب Less-Developed Areas کی کمیٹی میں چلے گئے
 ہیں۔

سید اصغر علی شاہ : سر،
 Less-Developed Areas کی کمیٹی
 میں اس طرح گیارہ ہو جائیں گے۔ پھر میرے آنے سے بارہ ہو
 جائیں گے۔

جناب چیئرمین : چلیں ، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ حضرات
 سید اصغر علی شاہ کو چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔
 (Accepted)

Mr. Chairman : Right! Then Committee on Rules of Procedure and Privileges.

(Pause)

No objection. Is it approved ?

(The Committee was approved)

Mr. Chairman : Then House Committee.

Mr. Abdur Rehman Jamali : Sir, I would like that my name should be included in the House Committee.

Mr. Ahmed Mian Soomro : Point of order Sir. There cannot be more than six.

Mr. Chairman : Is it so ?

(Pause)

I think the minimum is six. I am not quite sure.

Mr. Ahmed Mian Soomro : The House Committee must not be more than six.

Mr. Chairman : Not more than six. Well, then we will have to delete one from the existing House Committee.

جناب صوبیدار خان مندوخیل : سر، میں نے بھی گزارش کی

Committee on the Problems of Less-Developed Areas

تھی کہ میرا نام
میں شامل کیا جائے۔ آپ نے کہا تھا کہ جب اس کی باری آئے گی
تو دیکھیں گے already میرا نام ایک کمیٹی میں ہے۔

جناب چیئر مین : ایک کمیٹی میں ہے۔

Mr. Subedar Khan Mandokhel : I wanted to put my name in the Committee on the Problems of Less-Developed Areas.

Mr. Chairman : If the House accepts.

مجھے اعتراض نہیں ہے۔

صحیح ہے ۲ نمبر بھی نہیں پڑھ رہا۔ میرے خیال میں بارہ ہو جائیں گے۔

That is perfectly alright. Is it approved.

(The Committee was approved)

Mr. Wasim Sajjad : Sir, the House Committee is correctly constituted because Mr. Fazal Agha is there by designation under 149(2)—

“The Deputy Chairman shall be *ex-officio* Chairman of the Committee.”

Mr. Chairman : Then it is alright. Then we can't add any more to them. So this finishes the list.

آمناء و صدقنا

Mr. Muhammad Mukhtar Ahmed Khan : Sir, may I be permitted to be included in the Committee on Rules of Procedure and Privileges. I had given the option in three committees *i.e.* Nos. 3, 4 or 5, but I am in one committee only and that is No. 2 which is not my option.

Mr. Chairman : It would not have been possible to accommodate you in the other committee.

(Interruptions)

Mr. Chairman : I think we can accommodate him (Mr. Muhammad Mukhtar) on one more committee.

Mr. Muhammad Mukhtar Ahmed Khan : Yes Sir. No. 4 is alright.

Mr. Chairman : We can accommodate him in Committee No. 4.

Mr. Muhammad Mukhtar Ahmed Khan : Yes Nos. 4 and No. 5.

Mr. Chairman : Not in No. 5 but I think in No. 4, we will accommodate you.

Mr. Muhammad Mukhtar Ahmed Khan : If No. 3 is possible, Sir. No. 4 or No. 3 ?

Mr. Chairman : I think you are already on one Committee and we are putting you on one more committee.

Mr. Muhammad Mukhtar Ahmed Khan : I don't want my name in No. 2, Sir.

Mr. Chairman : Well somebody has to be on this Committee. The work has to be done in all the Committees.

Mr. Muhammad Mukhtar Ahmed Khan : O.K. If you say so, it is alright, Sir.

Mr. Chairman : Right. One point which I would like to bring to the notice of the honourable members who have been elected to the various committees is that at this stage, all of us are extremely anxious to be on one committee or another and a committee of our choice but when it comes to meetings it is within my knowledge that we have difficulty in organizing even quorum of committees and the quorum doesn't consist more than three or four members. So, kindly keep this in mind that when you have accepted the responsibility of being on a committee you kindly do full justice to the work of that committee whenever it meets.

Mr. Sartaj Aziz : Mr. Chairman two points. One is that while we have adopted these committees a scrutiny is necessary to see that no member is on more than three committees. So, the House may like to authorize the Chairman that where somebody is on more than three committees, in consultation with him his name may be deleted from those committees where he may not like to serve, so that it doesn't have to come back to the Senate.

Mr. Ahmed Mian Soomro : In any case ordinarily it should come to the House.

Mr. Sartaj Aziz : Ordinarily yes but here we are making a procedure that normally it should not be more than three committees.

Mr. Wasim Sajjad : The rules permit it. So, there is no need to have a veto on this.

Mr. Chairman : What he wants to suggest is that if somebody wants his name to be deleted from a particular committee instead of that coming back to the House the Chair should be authorised to delete it.

Mr. Wasim Sajjad : In that case it is O.K. If somebody wants to leave a particular committee.

Mr. Chairman : That is right.

Mr. Sartaj Aziz : Second point Sir, concerns the question of the staff for the committees. You will recall that in the report of the Special Committee on the Rules of Procedure and Privileges which we had submitted, we had made a recommendation that the effectiveness of the committees cannot be ensured unless some arrangements are made to allocate specialized staff for each committee. We didn't get a chance to discuss that but since the subject is on the agenda right now we may consider it right now. The resources are not probably sufficient with the Secretariat to allow full-time staff for each committee but may be for a combination of committees, one person can be assigned. The question of attendance in various committees is probably linked to the kind of agenda that comes up before the committee and the kind of issues that come up before the committee. So, if there is a Secretary designated for each committee who in consultation with the Chairman continues to identify various issues that should come before the committee, it will not only make the committee more effective but also increase the interest of members to come to those committees. For the next budget I hope in the light of the experience of this year a proposal can go to provide more resources to the Secretariat so that the committees can be served better, and this will be important for making the committees more effective.

Mr. Chairman : Actually, you are quite right that for the time being we are somewhat short of staff. We are trying to augment the staff but with qualified people. Already we have a Joint Secretary who is quite experienced and we are trying to fill the post of one or two Deputy Secretaries and they would be qualified in economics and matter of that type. It would not be possible to earmark and allot special staff to each committee on whole-time basis but we would designate officers in the Secretariat to be attached to more than one committee. They would remain in touch with the Chairman of the Committee and they can plan the agenda, issue the notices and take care of rest of the work. But the real work and initiative for taking up discussions or studies, research etc., that should come from the Chairman of a committee and I think it should not be left to the Secretariat; it would be then the tail waging the dog so to say.

Mr. Javed Jabbar : Mr. Chairman, two points in connection with this. You may have observed that even though we have a large Parliament building the actual space available even to the Chairman of the Committees to use even, a limited space to sit and conduct research, review the large volume of papers, is very inadequate. So, would you be kind enough to direct to identify for the future some rooms, some space for this purpose. To give you an example Sir, in respect of the Senate Special Committee on the Medicine Sector from yesterday I have been kindly allotted Committee Room No. 3 to do the secretarial or drafting work but that is not a regular office. So, should we not be identified some space in Parliament where Chairman of the Committee at least can sit and review the work done by Committee.

[Mr. Javed Jabbar]

* 2. Would you kindly fix a date for the meetings of these Committees so that it is not left indefinitely for the respective Committees to determine it themselves.

Mr. Chairman: Well for that probably the rules do not authorize me to fix date for the meetings of the Committee but the rules do authorize the Secretariat which includes the Chair also to make arrangements for the election of the Chairman of each Committee and after that it becomes the responsibility, as I was trying to explain earlier, of the Chairman of the Committees to organize their meeting etc.

The question of space, I think, that is another difficult problem. The Committee Rooms are really not meant for the type of job that you have in mind. They are too formal and I think, too spacious also for intimate discussion that you want to have in the Committees but we would look around and if you can also identify certain rooms, if we can squeeze I think the clerical staff or the Assistants, then may be we can find one or two rooms. But again it would be difficult to allocate a room to each Chairman of the committee because we can not find fourteen more rooms but two or three rooms can be designated for this purpose where they can meet. So, thank you very much, I think it is a something which was outstanding for a long time. It has been finalized. Mr. Munir Afridi.

Mr. M. Munir Afridi: Sir, if I can be on another committee I would like to request for that.

جناب چیئرمین : میرے خیال میں اب ختم ہو چکا ہے زندگی ہوئی
تو بہت ساری کمیٹیاں اور آئیے گی اور بہت ساری اور
آئیے گی۔ اگلی آئیے مگر۔

MOTION UNDER RULE 194

Mr. Wasim Sajjad: Sir, I would like to explain why I have brought this motion.

Mr. Chairman: I think, first you move it and then if you want to explain it or is it not necessary to move?

Mr. Wasim Sajjad: No Sir, it is necessary to move this but I thought before I move it, I would explain that we have taken this unusual course.

Mr. Chairman: Alright.

Mr. Wasim Sajjad: Sir, I had laid The Enforcement of Sharia Ordinance 1988, on the Table of the House. Under the Constitution and the Rules the only proper method of discussing this Ordinance was through a motion of disapproval under Article 89 of the Constitution but because it is very important and sacred step by the government, I felt that many members were reluctant to bring in resolution of disapproval but they still wanted to discuss this matter, so that any suggestions that they might give and any views that we might have,

might be brought out before the House. Consequently Sir, we thought the best method to do this would be to bring a motion for discussion of the provisions of Shāhria Ordinance and consequently a motion is being moved. So, with your permission Sir, I will move this motion.

Mr. Chairman : This would be under Rule 194. Right.

Mr. Wasim Sajjad : Sir, with your permission I beg to move :

“That the House may discuss the situation arising out of the promulgation of The Enforcement of Sharia Ordinance, 1988, with reference to its objects and reasons.”

Mr. Chairman : The motion moved is :

“That the House may discuss the situation arising out of the promulgation of The Enforcement of Sharia Ordinance, 1988, with reference to its objects and reasons.”

Motions under Rule 194 are not opposed or approved but they are simply discussed. So, if you want to discuss it today, we can start discussion today. if you want to fix a date then I think in consultation with the Minister concerned we will fix a date for discussion.

جناب وسیم سجاد : عید کے بعد کریں گے۔

Mr. Chairman : Then we will take this after Eid.

In the meantime we have this further discussion on the following reports of the Council of Islamic Ideology but this again today I don't think anybody would be in a mood to speak and nobody is prepared, this is what I felt. But I think, we can then start the two hours discussion or whatever it takes on adjournment motion of 21st January, 1988, which has been fixed for today. That was moved by Professor Khurshid, he is not here, but I think Mr. Muhammad Tariq Chaudhry is here. Would you start on. These are several motions.

(Pause)

I just wanted to remind the آپ کے پاس کاپیاں ہوں گی موشنز کی
House کیا چیز discuss ہو رہی ہے کیوں کہ یہ جنوری کا ہے اور غالباً یہ
کسی کو یاد نہ ہوگا۔

Mr. Javed Jabbar : I remember.

Mr. Chairman : You remember the subject.

Mr. Javed Jabbar : Yes.

Mr. Chairman : Right.

DISCUSSION ON INDIA HAVING ACQUIRED SOPHISTICATED
ARMS FROM OTHER COUNTRIES

Mr. Javed Jabbar : It says that Indian having acquired sophisticated.....

Mr. Chairman : Exactly. As long as you have the original motion.....

Mr. Javed Jabbar : Yes Sir. On India having acquired sophisticated arms from other countries.

Mr. Chairman : That is right, two or three other motions of this type were also added on to this and taken up for discussion together. Mr. Muhammad Tariq Chaudhry.

جناب محمد طارق چوہدری : بسم اللہ الرحمن الرحیم - شکر یہ جناب چیئرمین !
پاکستان اور ہندوستان قریبی ہمسائے ہیں لیکن عملاً یہ دونوں ایسے
ہمسائے ہیں جن کے درمیان ایسی دشمنی موجود ہے جو ازل سے شروع
ہوئی اور شاید ابد تک جاری رہے گی۔ انڈیا کی طاقت پاکستان کی
کمزوری ہے۔ انڈیا اور پاکستان ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے حریف
دشمن اور مخالف اور متضادم ہیں۔ ایک کا وجود دوسرے کا عدم
وجود ہے۔ اور دونوں کا وجود اس دنیا میں اس وقت تک موجود
ہے جب تک کہ طاقت کا توازن موجود ہے۔ جب بھی طاقت کا توازن
کسی ایک فریق کے حق میں ہو گا دوسرا فریق صفحہ ہستی سے مٹا دیا
جائے گا۔ اور بد قسمتی سے پچھلے کچھ عرصہ سے طاقت کا توازن
پاکستان کے خلاف ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی ایک ہزار
میل سے زیادہ طویل سرحد ہے اور پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ جو
ملحقہ سرحد ہے چند ایک میلوں کے بعد اس کی نوعیت بڑی مختلف
ہو جاتی ہے۔ انڈیا کی آبادی پاکستان سے بہت زیادہ ہے انڈیا
کی بری افواج پاکستان سے تین گنا زیادہ ہیں انڈیا کی
ہوائی افواج پاکستان سے پانچ گنا زیادہ ہے اور انڈیا کی بحریہ پاکستان

سے بارہ گنا بڑی ہے۔ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے۔ جس کی بہت کم ہے اور بعض جگہوں سے پاکستان کی واحد سڑک اور واحد ریلوے لائن انڈیا کے بارڈر سے ۱۸ اور ۲۰ میل کے درمیان ہے۔ اور ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کو ہمیشہ افواج کے معاملے میں برابری حاصل نہیں رہی۔ یعنی انڈیا کی افواج پاکستان سے ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ لیکن پاکستان کی افواج بہتر تربیت یافتہ اور زیادہ آرگنائزڈ تھیں اور اس کے اسلحے کی کوالٹی انڈیا کے مقابلے میں نسبتاً تھوڑی سی بہتر رہی ہے۔ لیکن ۱۹۶۵ء کی جنگ کے بعد ہندوستان کو پاکستان کے مقابلے میں جو ہزیمت اٹھانا پڑی اس کے بعد اس نے اپنی پوری توجہ اپنی افواج پہ دی۔ اسکی تربیت اور اس کی آرگنائزیشن پر اور اسلحہ پر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہندوستان کی افواج پاکستان کی افواج کے تقریباً ہم پلہ تربیت یافتہ ہیں۔ اور اس کی بہت بڑی تعداد ہے اور اس کو اسلحہ کی جدت میں پاکستان پر برتری حاصل ہے۔ اس کی فیکٹریاں دھڑا دھڑا اسلحہ بنا رہی ہیں وہ پوری دنیا سے بے پناہ جدید ترین اسلحہ حاصل کر رہا ہے۔ ایٹمی اسلحہ وہ پہلے ہی تیار کر چکا ہے۔ میزائل وہ خود بنا رہا ہے۔ ٹینک، طیارے تو ہیں ہر چیز خود اس کے ملک میں ڈھل رہی ہیں اور اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، تو صرف اور صرف پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس کے خلاف اس کی جنگی تیاریاں کوئی عملی شکل اختیار کر سکتی ہیں۔

آج سے برس ڈیڑھ برس پہلے، ہندوستان نے اپنی بہت ہی بڑی فوج پاکستانی سرحدوں پر لاکھڑی کی تھی۔ اور انڈیا کو صرف

[Mr. Muhammad Tariq Chaudhry]

افواج اور فوجی اسلحہ پر ہی برتری حاصل نہیں ہے بلکہ آج کی جنگ کے مختلف رخ ہیں مختلف پہلو ہیں۔ اور وہ مختلف طریقوں سے لڑی جاتی ہے۔ جو صرف اور صرف سرحدوں کے آر پار باہمی تصادم ہما کے ذریعے سے نہیں بلکہ ڈائریکٹ تصادم سے پہلے بہت سی دوسری تیاریاں کرنی پڑتی ہیں۔ معاشی لحاظ تعلیمی لحاظ سے نفسیاتی لحاظ سے خارجی اعتبار سے ہر طرح سے پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اور اس تیاری میں ہندوستان کی کیفیت پاکستان کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اس سب کچھ کا مطلب ہندوستان کی تعریف کرنا نہیں ہے۔ نہ پاکستانی حکومت کی مذمت کرنا ہے۔ ہمیں اپنی حفاظت درکار ہے۔ ہمیں اپنا تحفظ درکار ہے ہمیں پاکستان کی بقا درکار ہے۔ ہمیں پاکستان کا وجود درکار ہے ہمیں مضبوط پاکستان درکار ہے۔ اس لئے کہ پاکستان ایک ارب سے زیادہ مسلمانوں کی واحد امید ہے۔ واحد سہارا ہے ان کا تحفظ ہے۔ ان کے نظریات کا تسلسل ہے۔ اس لئے پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ عائد ہوتی ہے۔ لہذا پاکستان کو ہندوستان کے مقابلے میں اپنی جنگی تیاریوں کو ہمیشہ اس سے بہتر رکھنا ہوگا۔ لیکن افواج پاکستان جن کے ذمے اس ملک کا دفاع ہے وہ عرصہ چالیس برس سے دوہری ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ پاکستان کی سیاست اور حکومت کو بھی چلا رہی ہیں اور پاکستان کی نظریاتی اور دوسری سرحدوں کے تحفظ کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لئے ہوئے ہیں۔ پاکستان افواج کے تین حصے ہیں، عام سپاہی ہے، مڈل

کمانڈ ہے اور اعلیٰ کمانڈ ہے۔ پاکستان کا عام سپاہی یقیناً بڑا سادہ ہے مسلمان ہے بہادر ہے جری ہے، بہتر تربیت یافتہ ہے اور ذوق شہادت اور شوق شہادت اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ لہذا وہ جان دے بھی سکتا ہے اور جان لینے کی بھی ہمت رکھتا ہے۔ اس جگہ پاکستان کے لئے کچھ زیادہ دقت نہیں ہے۔ مڈل کمانڈ ہمارے نوجوان سینکڈ لیفینٹ سے لے کر ہمارے کرنل تک ٹری محب وطن ہے تعلیم یافتہ ہے سمجھدار ہے بہادر ہے اور پچھلی جنگوں میں جس طرح انہوں نے آگے بڑھ کر جام شہادت نوش کیا وہ پاکستان کے مستقبل کے لئے ایک اچھی مثال ہے۔ اور ہمیں اپنی طاقت کا احساس ہونا ہے لیکن یہاں سے اوپر پاکستان میں بریگیڈیئر سے اوپر جتنے عہدے ہیں وہ پوری اہلیت کی بنیاد پر تقسیم نہیں کئے جاتے اہلیت کی جگہ ضرورتیں اور سیاستیں وہاں کارفرما ہوتی ہیں۔ لہذا جرنیل ہمارے جو ہیں یا یہ جو ہائر کمانڈ ہے یہاں پر ہمیں ہندوستان کے مقابلے میں برتری حاصل نہیں ہے۔ ہماری اعلیٰ کمان سیاست میں ملوث ہے۔ اقتدار کا خون اس کے ہونٹوں کو لگا ہوا ہے۔

Mr. Shad Mohammad Khan : Point of Order, Sir. Sir, he should be relevant...

Mr. Chairman : I think, he is in order.

جی جاری رکھیں۔

جناب محمد طارق چوہدری: لہذا اس جگہ ہمارے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اس لئے کہ ہم پہلے سے زخم خوردہ

[Mr. Muhammad Tariq Chaudhry]

ہیں پاکستان کا آدھے سے زیادہ حصہ ہم کھو چکے ہیں۔ گنوا چکے ہیں۔ اس سے ہماری طاقت آدھے سے کم رہ گئی ہے۔ اور وہ حصہ جو ہم نے کھویا تھا وہ حصہ جو ہم نے گنویا تھا جس کے بارے میں آج ہماری بیوروکریسی، جس کا نام تک لینا نہیں چاہتی جس کو اندھیری رات کے گناہ کی طرح بھلایا جا رہا ہے۔ وہ بھی حادثہ اور ساختہ ہماری فوجی حکومت کی کارکردگی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید وہ فوجی شکست نہیں تھی۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ فوجی حکومت کی سیاسی کارکردگی کا بین ثبوت ہے۔ اور یہ ساختہ گزر جانے کے بعد بھی آج پھر پاکستان کے اندر اسی طرح کی فوجی حکومت موجود ہے اور آج پھر پاکستان کا ایک بہت بڑا صوبہ اسی طرح آگ اور خون میں جل رہا ہے۔ دھک رہا ہے۔ اور اسی طرح کے حالات پھر پیدا کر دیئے گئے ہیں۔ مشرقی پاکستان جس کو آج ہم نے بنگلہ دیش کے طور پر تسلیم کر لیا ہے وہ مشرقی پاکستان بھی "RAW" کی اور ہندوستان کی خفیہ ایجنسیوں کی زد میں تھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب ہندوستانی افواج پاکستانی سرحدوں کی طرف بہت بڑی تعداد میں آ موجود ہوئی بھتیں اور "RAW" کے ایجنٹوں نے سرحد کے اس پار گرین سگنل دے دیا تھا تب آپ نے دیکھا کہ ٹھیک اس وقت جب دنیا کی سب سے بڑی مشق پاکستانی سرحدوں پر کی جانے والی تھی تب کراچی میں اتنے بڑے ہنگامے پھوٹ پڑے اور اتنی شدت سے ہنگامے پھوٹے کہ پاکستانی افواج کو وہاں پر کرفیو لگانا پڑا اور کرفیو لگا کر پاکستانی افواج

وہاں مصروف تھی۔ تب عالمی حالات اگر ہماری حمایت نہ کرتے تو شاید ہم ایک بہت بڑی بد قسمتی سے گزر چکے ہوتے۔ عالمی حالات نے ہماری favour کی لیکن عالمی حالات اور کرکٹ کے نام پر منت سماجت کب تک ہمارا تحفظ کرتی رہے گی۔ ہمیں پاکستان کے تحفظ کیلئے نہایت سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینی ہوگی۔

اس کے لئے میں بہت زیادہ طوالت میں جانا نہیں چاہتا، میں چاہوں گا کہ پاکستان کے سیاسی حالات بہتر بنائے جائیں، پاکستان کی معیشت کو صحیح طریقے سے ترتیب دیا جائے پاکستان کے عام آدمی کو تحفظ فراہم کیا جائے، پاکستان کی انٹیلی جنس ایجنسیوں کو از سر نو ترتیب دیا جائے۔ بلکہ میں وزیر دفاع سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کی وہ انٹیلی جنس ایجنسیاں جن کے ذمے سرحدوں کے اندر اور سرحدوں کے باہر ہر چیز پر نظر رکھنا ہے وہ پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر بھی توجہ دیں کیوں کہ بہت طویل عرصہ سے ہمارے یہاں بہت مشکوک سی صورتحال ہے مثلاً ایک آدمی کو پیپلز پارٹی یا الذولفقار کے چکر میں کوڑوں کی سزا ہوتی ہے اور پھر وہ وزیر بن کر بیٹھ جاتا ہے تو اس طرح ہر چیز ایک شک کی لپیٹ میں ہے تو اس کو بہت غور و فکر کے ساتھ ہر چیز پر توجہ دینی چاہیے پاکستان کی افواج موجودہ صورت میں اگرچہ ضروری ہیں لیکن بجٹ کا ۶۰ فیصد حصہ بھی ان کے اوپر صرف ہوتا ہے۔ نتیجتاً پاکستان کی ترقی کے لئے پاکستان کی تعلیم کے لئے پاکستان کی دوسری ضروریات کے لئے کچھ باقی نہیں بچتا ہے اور ہمیں اپنی افواج کی بھی ضرورت

[Mr. Muhammad Tariq Chaudhry]

ہے تو پھر کیوں نہ ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے ہم اپنی افواج کو بھی ہنتر طریقے سے ترتیب دے سکیں اور ہم اپنے وسائل کو بھی محفوظاً بہت بچا سکیں یعنی میری مراد یہ ہے کہ پاکستان سٹینڈنگ آرمی کے تصور کو بدل ڈالے، پاکستان نیشنل آرمی بنائے، نیشنل آرمی اسرائیل کی طرز پر بنائے ترکی کی طرز پر بنائے یا چین کی طرز پر ترتیب دے، سٹینڈنگ آرمی کا تصور بدل دیا جائے دوسرا یہ کہ پاکستان اسلحہ میں خود کفالت کے لئے بھرپور توجہ دے تیسرا یہ کہ پاکستان کے ذرائع رسل و رسائل جو ہیں مثلاً ٹرک جو پاکستان میں چلتے ہیں ان میں لکسانیت پیدا کی جائے یعنی ایک ہی طرح کا ہمارا یہ سارا سسٹم ہو کہ جنگ اور ہنگامی حالات میں سولین ٹرک اور اس طرح کی جو دیگر civilian carriages ہیں وہ ہمیں مدد دے سکیں اس پر سپیشل توجہ دی جائے اور سڑکیں جو ہیں وہ دفاع کو سامنے رکھ کر بنائی جائیں مثلاً ہمارے پاس کراچی سے پشاور تک ایک ہی بین روڈ ہے اگر ہم بہاولپور اور رحیم یار خان سے آگے چلے جائیں تو اس کا فاصلہ اور ٹرین کی پٹری کا فاصلہ انڈیا کی سرحد سے بہت ہی کم ہو جاتا ہے اور آج کی جدید توپیں اس ساری ٹرک کو کاٹ سکتی ہیں اس طرح پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے لہذا متبادل سڑک کا جو ہمارا منصوبہ تھا کہ ایک سڑک ڈیرہ غازی خان سے ہوتی ہوئی اس طرف کو جائے اس پر فوری توجہ دینی چاہیے پاکستان کے دفاع کو سامنے رکھ کر

اس پر توجہ دینی چاہیے، تیسرا یہ کہ پاکستان ایٹمی دفاع کی ٹکنیک کو اختیار کرے، دنیا جو بھی کہتی رہے، سپر طاقتیں جو بھی سوچتی رہیں، ہمارے دشمن جو بھی بکتے رہیں، ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سب سے اولین ہماری ذمہ داری پاکستان کا تحفظ ہے، پاکستان کی بقا ہے پاکستان کا وجود ہے پاکستان کی ضرورت ہے لہذا سب سے اولین ترجیح ہمیں پاکستان اس کی ضروریات اس کے دفاع اور اس کے تحفظ کو دینی ہے نتیجتاً ایٹم برائے دفاع کی پالیسی کو اختیار کیا جائے کیوں کہ اگر ہم ایٹمی طاقت بن جاتے ہیں تو ہندوستان کی جارحیت سے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی افواج کو از سر نو بہتر طریقے سے ترتیب دینے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور ہم اپنے وسائل کو دوسری چیزوں پر خرچ کرنے کے لئے کچھ بچا بھی سکتے ہیں۔

نیشنل آرمی کا وسیع پروگرام فوری طور پر اگرچہ شروع نہیں کیا جاسکتا تو کم از کم اس بارے میں میری یہ تجویز ہے کہ ایک ٹرسکولز یا کالجز میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں یعنی جب کوئی بھی بچہ میٹرک تک تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اگلے ادارے میں اس وقت تک اس کو داخلہ نہیں دیا جائے جب تک کہ ایک برس تک وہ فوجی تربیت حاصل نہ کرے اور ایک سال فوجی تربیت حاصل کرنے کے بعد ایک سال تک اس سے قومی خدمت لی جائے تو اس طرح دو برس تک اس کو اس سائڈ پر کام کرنا چاہیے۔ اس کے

[Mr. Muhammad Tariq Chaudhry]

بعد اس کو دوسرے اداروں میں جانا چاہیے اور ہر برس اس کی جو تربیت ہے اس کو دوبارہ تازہ ہوتے رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ حکومت کے اندر حکومت کے جتنے بھی شعبوں میں لوگوں کو ملازمت دی جاتی ہے بھرتی کیا جاتا ہے وہ کسی بھی سطح پر ہو ان سب کے ساتھ بھی یہی عمل دہرایا جائے اور اس طرح ہم ہر برس کئی لاکھ ریزرو فوج تیار کر سکتے ہیں جو پاکستان کے دفاع کے لئے ہمہ وقت موجود ہوگی جب بھی ہمارے اوپر کوئی ہنگامی صورت حال بنتی ہے ہم انہیں ملک کے دفاع کے لئے بلا سکتے ہیں یہی ایک طریقہ ہے ہمارے پاس سستا بھی اور دستیاب بھی۔ جس کو ہم فوری طور پر عمل میں لا سکتے ہیں اور اس طرح ہم پاکستان کے تحفظ کا اور پاکستان کے دفاع کا ہندوستان کی تیاریوں کے مقابلے میں بہتر طریقے سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں، و آخر دعونا ان الحمد للہ رب العالمین۔

Mr. Chairman: Mr. Javid Jabbar.

Mr. Javed Jabbar: Thank you Mr. Chairman.

The adjournment motion concerns the acquisition on a large-scale of sophisticated arms by India but we need to look at this subject in the context of the economic reality in which the South-Asian countries live. The seven countries of South Asia represent more than about 1/4th of the world's entire population. When you look at the quality of life that the overwhelming majority of the people of this region live through, one sees that the most fundamental priority facing them is the achievement of their basic economic rights—whether it is India, Pakistan or Bangla Desh, which are the three most visible countries out of seven countries of South Asia the majority have not yet achieved their basic economic rights. The majority have not even been given their social rights particularly the women of South Asia, and the quality of life for the children of South Asia is amongst the worst in all parts of the world whether it is by the standard of mal-nutrition, lack of education, literacy, protection against child labour and so on. So, therefore, when we look at the context of defence and the acquisition of arms, we look at it from the perspective not of a region like Europe or North America where these basic rights have already been achieved, where the President of the United States might be able to find some kind of justification for increasing expenditure on Star Wars because at least the average American citizen receives safe drinking water, at least the Europeans have social security but virtually in all parts of

South Asia despite forty years of independence and despite various schemes of social security and so on, the actual availability of these rights for the over-whelming majority of the people of South Asia is still denied to them. Therefore, the acquisition of arms by any countries in the region becomes an obscenity. It is like an obscenity committed on the reality in which people live.

The first priority for all policy makers in this region should have been a policy pursuing economic development and the fulfilment of social rights. That is what should have been but it was not and, therefore, after, stating what the direction by policy planners in all countries should have been one should take specific note of what the Indian approach was.

And Mr. Chairman, from the very outset it is curious that a country like India which claims to be and which is the largest democracy in the world, which wants to play a major role in this region, how easily it allowed the departing British to dictate what kind of arms and naval policy particularly it should follow. In fact it is on the record that Lord Mountbatten in one of his remarks made at the time of being Governor-General of India said that India should concentrate on acquiring or increasing its strength in view of its new international position and in pursuance of this kind of policy definition the British deliberately gave the Andaman Islands, to the east of India and the Laccadive Islands, to the west of India, into India control. The Andaman Islands have not been historically part of India at no time in history. They have had their own peculiar location and identity but because the British wanted in a way to pass on the mantle of a regional power to India's and to create a constant power in equilibrium. These two vital points of the naval area surrounding and affecting all countries of South Asia except perhaps Nepal which is not a naval related country were given over to India. Even the Laccadive Islands which are really supposed to be historically part of the Maldive's Islands was given over to Indian control and in fact this was further clarified many years later after Lord Mountbatten had left when then Chief of Staff of Indian Navy Admiral Kohli went on record as saying that the job of the Indian Navy is not to defend the coastline of India but to ensure that no power enters this region. In fact to check any super power already in 1978, ten years ago India was already beginning to view its role in this region as being equivalent to that of a super power. Without having first granted those basic economic and social and human rights to the people who are suffering from deprivation. Mr. Chairman, in naval terms alone India already has three naval fleets, a Western fleet, a Southern fleet and an Eastern fleet. It also, as you know, has acquired nuclear submarines from the Union of Soviet Socialist Republic and this handbook on defence armaments which is called Janes fighting ships rates the Indian Navy as being the most powerful force anywhere in the region from the east or Suez going up to the Pacific area.

Now, this has been further buttressed in recent times as you may recall by the opening of a joint new naval facility on the West coast of India, south of Bombay in the State of Kerala which poses a direct threat not only to the interest of other South Asian countries but also to the countries of the Middle East which have a coastline on the Arabian Sea and the countries of East Africa which do not have anything comparable in naval terms.

Mr. Chairman, India already has the largest armaments industry in the Third World despite being a country that espoused the principles of 'Bandung', way back in the 1950s it went on to pursue a policy by which either through its own

[Mr. Javed Jabbar]

manufacturing knowledge or by acquiring licences it has become capable of producing the largest volume of armaments in the one hundred or more countries of the Third World, more alarming perhaps for Pakistan Mr. Chairman, is that by 1995 India is estimated to be able to operate 33 nuclear reactors which will probably be about eleven times more than what Pakistan. But even more a note of concern is that they are not dependent, the fuel cycle for these reactors is not dependent on uranium but on thorium for which India has the largest resources in the world so that India does not have to turn to other countries which we have to turn in order to establish some of the basis for operating nuclear reactors. Now, this kind of data creates great misgivings in the minds of all countries in the region. Pakistan if it ever raises its voice about this kind of build up it is immediately accused of being perennially hostile to India. But when one talks to people from the other countries of South Asia indeed when one talks to people coming from even the east coast of Africa, from Australasia from South East Asia, there is growing concern all over and people ask what is the purpose of this Indian build up. How can India ignore the domestic reality and pursue this.

So, very rightfully we in Pakistan need to review our entire approach to defence policy. And now defence policy in Pakistan Mr. Chairman, unfortunately has always been the kind of prerogative or a monopoly of the armed forces or of a certain elite in government because it has been considered that civilian politicians may not be well informed about defence matters. They may not know which armament is better than another armament. They may not have access to all the reports from interservices intelligence or military intelligence which is obvious unless you are executive power, you don't have access to all information but I think that it is vital that Parliament as a representative of public opinion should be closely concerned with the formulation, the monitoring and the implementation of defence policy. In fact one has called earlier for a full scale debate on defence policy in Pakistan and if security interests so require certain portions of that debate can be held in a secret sitting of the Senate. Because all sittings dealing with defence policy need not necessarily be made secret but if the government is of the view that some information should not be published or made available in the public interest we are willing to submit to that requirement but it is high time in view of all the data that Mr. Tariq Chaudhry has mentioned, in view of the data that we have listed, that I have listed just now, that Parliament engage itself in defence policy and that a coherent national defence policy be evolved which has the consensus of the political forces both inside and outside Parliament and the military establishment. There is constantly a kind of gap between the two. This gap is bridged when say a Prime Minister is asked to go and attend some ceremonial parade of some regiment or he is taken on board some naval aircraft and the public gets the feeling that the civilian order is still running the defence show but we well know the fact is that the defence sector of Pakistan being the largest single chunk of the defence budget has developed a momentum and a framework of its own and therefore, in the national interest without, I think, taking away from the confidentiality the specialization that each armed force probably as in fact the debate and the discussion on the purchase of the naval frigates was a very good example where to the best of my knowledge I think the armed forces were grateful that Parliament took an interest in this vital issue, I believe that the Standing Committee on Defence in the Senate was briefed and the people briefing that Committee came away with the impression that they received a very intelligent and a very sympathetic response to the problems that

face one part of our armed forces. But Mr. Chairman, simply a debate on defence policy will not suffice. I think that will be part of the review and reconstruction of our defence strategy in response to India. I think the most basic thing that needs to be done is a domestic political reconciliation. The country is far too divided and bitter at this stage. In militaristic terms for India the greatest potential weakness of Pakistan is not the military front because even though our forces may not be as well equipped as the Indian forces, our military forces have shown time and again that even with very limited means they can always exhibit valour and courage and make the sacrifices whether it is even after having been upset in Siachen, the conditions in which they are fighting there are the numerous other examples. So, I think the basic factor of response to the Indian arms build up must be a review of the domestic political situation in Pakistan. Not a prolongation of uncertainty, not various postponements of election but a firm date for an election that is held with a national consensus on a party basis so that all the ethnic, linguistic and provincial divisions that have come about to weaken this country are removed and we are then able to begin to answer the Indian challenge, so that we can defeat the militaristic lobby that might exist in both countries and move towards the achievement of those economic social rights for which the people of South Asia have really been struggling throughout their history where various kings, emperors, Badshahs and Nawabs have deprived them and which should really be the ultimate goal of building peace and goodwill between nations. Thank you.

Mr. Chairman : Thank you. Mr. Hasan A. Shaikh.

Mr. Hasan A. Shaikh : Sir, this motion which focuses attention of the people of Pakistan on India's having acquired sophisticated arms from other countries on large-scale is a timely one. In fact, it is probably late in the day that we are considering these motions. Two factors must be considered as upper most for creating a defence capability to Pakistan against a superior force in terms of numbers, against a superior force in terms of resources and against a superior force in terms of World Influence. For that purpose the first thing that Pakistan will have to do is to change the image of Pakistan from being subjected to military government to a civilian government in this country of real type, not a civilian government in the name. The entire fulcrum of power in Pakistan must vest in the civilian hands, that is the only way by which we can be a very powerful, mighty nation in this part of the World. We are here today in an unfortunate position for the last several years to have succeeded by Martial Law, succeeded by another Martial Law and now anticipatory Martial Law ; today we are sitting on the explosives of an anticipatory Martial Law. Why does this happen? Pakistan consists of ten crores of people. They are not allowed to govern themselves but power whatever that be interferes with the civilian government on the ground not known otherwise to the Ministers of that government. It is unfortunate Sir. We are pining for civilian government in this part of the World. We, who belong to those traditions, say Musalmans created an impact of their own all over the world. Musalmans of Arab countries they came all the way to Pakistan, to Ceylon to Indonesia, to Malayasia, they dominated this part of the World but unfortunately the Muslims of Pakistan are not being trusted to be a powerfull nation by those people who squeezed verything from the people of Pakistan and spend 80% of that squeezed resources for their own personal betterment. We do not need airconditioned houses for big shots in the armed forces.

[Mr. Hasan A. Shaikh]

One of the reasons why, I am sorry to say this, Egyptians had to see reverses, against Israel was that their Generals were used to luxury ; airconditioned houses, airconditioned resources and therefore, they were not able to fight against an army, much smaller in proportion than the Egyptian Army. This has to be kept in mind that unfortunately the civilians are not allowed to govern in Pakistan. Only recently, we had about three years or three years and a half of civilian government. For no reasons whatsoever that government was toppled and the Army people have already taken hold and you see those presiding. I mean, in the place of Prime Minister, all the Cabinet meeting; are being presided over by the Defence bosses. We can not help it.

Mr. Chairman : I think that is not correct. It is the President of the country which the Constitution recognized as the President, he presides over the Cabinet meetings.

Mr. Hasan A. Shaikh : President of the country is also the Chief of the Army Staff.

Mr. Chairman : True, but he does not preside over the Cabinet meetings in that capacity.

Mr. Hasan A. Shaikh : I don't say, he presides in that capacity but we can not ignore the fact, he is also the Commander-in-Chief of the Army and the fact that he is a part-time President or a Part-time Commander-in-Chief, thus stands in the way of Pakistan being a mighty, powerful nation of this area. He is not a full-time Commander-in-Chief or a full-time even President, he is part-time. He should be relieved of this burden which he can not bear, we have seen it, he can not bear this burden and therefore, he committed a mistake—a blunder of getting away with the civilian government which was looking after the interest of Pakistan. Now, look at it in this way Sir. We have such a big history and tradition; history of being able to dictate the whole World. Today, what is the position ? India has not only ten times greater army, but India has sophisticated arms also. India produces some sophisticated arms and the best type of tanks, aeroplanes, warplanes, they are all being produced by India in their own factories. What is our position ? We don't even have resources to repair them ? We don't have even resources to put them to our use. When our army is going to do it ? We are only producing small arms that is not sufficient for Pakistan and that can be done only if the entire attention of the Minister and the entire attention of the Commander-in-Chief is devoted to their defence jobs. If they are also to look into this, on paper Sir, all the defence.Chiefs, they belong to their own services including probably the Commander-in-Chief of the army we know Commander-in-Chief of the army is a part-time man, others we don't know but unless they had supported the part-time Commander-in-Chief, this change in the civilian government would not have occurred. Unfortunately a man whom I respect so much, a man who has such a long experience of political life, who has remained Governor in his life time, he should have come with an idea of appointment of a Field Marshal in Pakistan. In these days Field Marshal for what ? In which field did he get the victory ? Is it in the field against the people of Pakistan—unarmed people of Pakistan—who do not know how to handle even guns ? Field Marshals are not created like that. Field Marshals are created in international battle field. We created one and that Field Marshal too without a war and how he wants to create an other Field Martial.

I never expected this from him. I had an image of the person who proposed a Field Marshalship in Pakistan that was entirely blurred; it was almost demolished when I heard this. Sir, we need Field Marshals when they create entire sophisticated arms within this country. They don't go in for commission because Pakistan Defence Forces don't have Pakistani arms. Because if they buy Pakistani arms, they don't get commission. If they buy arms from other countries then they get commissions. And people talk of corruption amongst the National Assembly Members. National Assembly Members don't go in for commission.

Mr. Mohammad Aslam Khan Khattak : Sir, I will lodge a protest that the honourable member is culminating defence forces. It is not correct that all Generals are corrupt. There are blacksheeps every where. He is totally wrong to say that the Generals are corrupt.

Mr. Hasan A. Shaikh : I never said that. You said it. (*Interruption*).

Mr. Chairman : Please confine yourself to the subject under discussion.

Mr. Hasan A. Shaikh : Yes, Sir. But I never said, "Generals are corrupt". He is saying, "Generals are corrupt". He is suggesting through me. (*Interruption*)

Mr. Chairman : Please confine yourself to the subject under discussion.

Mr. Hasan A. Shaikh : Sir, I say, "you cannot build sophisticated arms in this country unless you start producing it in this country and using it". Whenever the question arises there is a big white elephant called the Steel Mills that they do not even purchase the steel dust from Pakistan; they don't purchase their requirement from Pakistan. When this raw material is available in Pakistan, why don't you do that? Because firstly they are saying that they have already gone into contractual obligation. We import even our requirements from India. Why? We have mineral resources in Pakistan to produce everything. But the government is not doing and this I say only because the commission is an important factor in dissuading people from buying from Pakistan. That entire important factor must be deleted. My friend got up to say that I spoke against Generals. I did not want to speak against Generals. If there is an opportunity, it is a different thing. But today, I did not speak against Generals. Today, I do not want to speak against Generals. But I must say—Generals are Pakistanis, they have to realize that they have become Generals because Quid-e-Azam, a civilian, had got Pakistan out of the efforts of the civilian forces. How many of these Generals were in Pakistan's movement? A civilian who got Pakistan, his contribution has to be accepted and I know, people will say, Mr. Mahmood Haroon is a civilian. He is a Defence Minister. I know his talents; I know his experience. But I still say that he wouldn't be able to do what a much younger man with talent, who is prepared to work hard to create a phenomenon of production of sophisticated arms and all types of arms in this country, would have done better. I know, he is a good friend of mine; I have always respected him but I think he would have been much better to some other spheres, in some other Ministry—probably Information Ministry where he has life long experience. But in the Defence Ministry... , some gentlemen said, Sir, that we have a Minister who was sentenced for 'sabotage'.

Mr. Chairman : Please don't go into personal things. Confine yourself to the subject.

Mr. Hasan A. Shaikh : No. No. Some gentlemen said, I am not going into that, I really don't want to say that but if that is so, this is a fact that can be looked into. How can you keep a Minister who has been sentenced for sabotage ; who has been sentenced to whipping and then expect that Pakistan would be able to make a mighty country out of this present government. The government has to be a completely patriotic government with no traces not even suspicion of sabotage. Sir, if the people have already been convicted by the Military Courts, by the Martial Law Authorities then he has no business to remain here and those who have appointed him had no business to appoint him. The only thing that I can only think of is that we must get rid of the military influence in Pakistan. I don't say that we should get rid of military. I want the military to be there ; I want them to be stronger ; I want to strengthen them but they must be under the civilian control as they are in civilized countries of the world. Look at India. India has almost the same amount of progress that we have but they are going faster because there is a patriotic feeling not only amongst the people but also amongst the higher hierarchy of the defence forces. They devote their entire life. What happens in India? A Commander-in-Chief is appointed for two years. First year, he spends in congratulatory dinners and second year, he spends in farewell dinners. Therefore, the India makes progress. Commander-in-Chief is not a vested interest in India. Here, we have created our vested interests. This has to be looked into ; this has to be avoided and it is only then that Pakistan will be a land which Quaid-e-Azam envisaged for us and we can only do that by warning the people who are at the helm of affairs that you are tinkering with all these things. Look ! If tomorrow Rajiv Gandhi is in trouble. He finds that he cannot win the election, he might do things which we will not like but how will we resist it with the present echelon of our defence forces. How many of our Ex-Air Force Chiefs are still in Pakistan ? Why do they go out ? There is a rumour, most people believe that some big shots in our defence forces have got big ranchos in United States of America, I hope, it is not correct. But I do hope, that it will be looked into and all these facts should be placed before the Parliament, before the Senate and lastly, I say Sir, that the biggest humiliation, Pakistan has suffered on the 29th of May, 1988.

Mr. Chairman : But that has nothing to do with the motion.

Mr. Hasan A. Shaikh: Unless we get rid of this humiliation, we cannot make progress and get sophisticated arms. Nobody will sell us his sophisticated arms unless they know that there will be no interruption. Thank you, Sir.

جناب چیئرمین : شکریہ ! جناب بہرہ ور سعید صاحب آپ سے
 درخواست یہ ہے کہ نفسِ مضمون پر زیادہ Concentrate کریں۔
 انونزادہ بہرہ ور سعید : بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین
 صاحب ! ایک ہندو شاعر نے اس سلسلے میں بہت شعر کہے لیکن
 مجھے ایک شعر یاد ہے۔

ہ ہندو تم میں ہے اگر جذبہ ایمان باقی
 ایک رہ جائے نہ دنیا میں مسلمان باقی

جناب چیئرمین صاحب: جو موشن اس ہاؤس کے سامنے ہے کہ ہندوستان نے بہت ہی ایڈوانس اسلحہ حاصل کیا ہے۔ اور اس کے انبار لگائے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنا جدید ترین اسلحہ اتنی بڑی مقدار میں بھارت نے بیرونی ممالک سے حاصل کیا ہے جب کہ اس سے بھی زیادہ مقدار میں وہ خود بھی پروڈیوس کر رہا ہے۔ کس واسطے؟ کیا وہ روس کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کیا وہ چین کو فتح کر نیکا ارادہ رکھتا ہے؟ نہیں۔ وہ اس دماغ کو دھونا چاہتا ہے کہ بھارت مانا کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اس مانا کے دو ٹکڑوں کو ملانے کے لئے، ایک ٹکڑا بنانے کے لئے، جو اٹوٹ انگ کی رٹ وہ لگائے ہوئے ہے کہ پاکستان ہمارا اٹوٹ انگ ہے، کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے اس چیز کو بحال کرنے کے لئے وہ سب کچھ کر رہا ہے ہم سب کو یاد ہے کہ جب سابقہ مشرقی پاکستان اس دلیر جرنیل نے جنرل اروڑا کو پیش کیا تو اس سے قبل وہ کہہ یہ رہا تھا

The Indian forces will walk over my dead body.

بہر حال اس موقع پر اندرا گاندھی نے کہا کہ یہ ہندوستان کے سیناؤں کی فتح نہیں ہے بلکہ یہ اس دو قومی نظریے کی شکست ہے جس کی بنا پر پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ جناب والا! ہندوستان اور پاکستان کے برصغیر پر مسلمان ہزار سال تک بلکہ چودہ سو سال تک حکومت کر چکا ہے، ہندو نے ہمیشہ اس کو اپنا دشمن تصور کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں صحیح طور پر تصور کیا ہے۔ جب انگریز آیا

[Akhunzada Bahrawar Saeed]

تو ہندو نے موقع سمجھ کر انگریز کا ساتھ دیا اور مسلمان کو وقتاً فوقتاً ہر ایک چیز سے محروم کرتا رہا۔ جب مسلمان کو ہوش آیا اور ہم نے قائد اعظمؒ کی رہنمائی میں یہ ملک حاصل کیا تو اس وقت سے ہندو نے یہ ہتھیہ کر لیا کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی چھوٹے ممالک ہیں ان کو بالعموم اور پاکستان کو بالخصوص اپنے satellites میں تبدیل کرے اگر ان کو مکمل طور پر فتح کر کے اپنے ملک میں شامل نہ کر سکے۔ اس مقصد کو حاصل کر کے وہ اس دنیا میں تیسری سپر طاقت بن جائیگا اس لئے وہ سب جدوجہد کر رہا ہے۔ میں تو اس کی تعریف کروں گا کہ ہندو نے اپنی سابقہ تاریخ چھوڑ کر ذات پات کی تاریخ سے نکلنے کی کوشش کر کے یا اس کے ہوتے ہوئے بھی اس نے ایک فوجی طاقت بننے کی طرف جتنی توجہ دی ہے وہ قابل تعریف ہے اور ایسی فوجی طاقت بننے کے لئے اس نے لغیش کے سامان پر یا بجز اس سامان کے جس کے بغیر وہاں کے لوگ عام زندگی نہیں گزار سکتے، باقی سب کی درآمد پر پابندی لگائی ہے جب ہم دہلی جاتے ہیں تو نیو دہلی میں کناٹ پولیس جیسے بڑے بازار میں سارے دن میں ہمیں دو سو موٹر بس نظر نہیں آئیں۔ اگر کوئی صاحب موٹر میں جاتا ہے تو انڈین میڈ موٹر میں جاتا ہے کسی کے گھر میں اگر An conditioner لگا ہوتا ہے تو وہ انڈین میڈ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری دولت اندرون ملک خود کارخانے لگا کر فوجی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں خرچ کی ہے اور ملکی سامان کو باہر بیچ کر اس کے ذریعے زرمبادلہ حاصل کر کے

مزید فوجی سامان خریدنا شروع کیا ہے اور اس طرح وہ اب ایسی طاقت بن گیا ہے کہ ہمارے دوست بھی چاہتے ہیں کہ ان کی برتری کو ہم تسلیم کر لیں۔

اس کے برعکس جناب والا! یہ جانتے ہوئے کہ ہندوستان کی یہ ساری طاقت صرف پاکستان کو ختم کرنے کے لئے یا مغلوب کرنے کے لئے یا اس کو اپنا Satellite بنانے کے لئے ہے اور اس کا

یہ مقصد ہے کہ کسی طرح سے پاکستان پھر ہندوستان کا حصہ بن جائے اور ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کا یہی مقصد ہے اور وہ اس پر آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم

نے ایک Standing Army رکھی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک ضروری چیز ہے۔ لیکن کیا اس سٹیٹنگ آرمی سے موجودہ وقت

میں ہم اپنا مکمل طور سے دفاع کر سکتے ہیں۔ جبکہ ہم اب بھی اپنے جہازوں کی مرمت کسی کے پاس جا کر ادھار مانگ کر کرواتے

ہیں یا مرمت کے لئے فاضل پرزے لاتے ہیں۔ ہم اب بھی اس قابل نہیں ہیں کہ یہ فاضل پرزے زیادہ مقدار میں خود بنا کر

اس چیز کو جو ہم نے باہر سے حاصل کی ہے استعمال کریں quantity

پر توجہ ہم دیتے ہیں quality پر ہم نے توجہ نہیں دی۔ میرے

دوستوں نے بڑی اچھی تجاویز پیش کی ہیں کہ اس فوج پر اور محض اس فوج پر انحصار کرنا پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے۔

ہمیں ساری قوم کو اس جنگ کے لئے تیار کرنا چاہیے جو کہ ہندوستان کسی بھی وقت ہم پر مسلط کرے گا۔ اور جس طرح چین میں

[Akhunzada Bahrawar Saeed]

ملیشیا فورس بنائی گئی ہے۔ کیا اسی طرح سے ملیشیا ہم تیار نہیں کر سکتے ہم میں اہلیت ہے ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے حکمران یہ چاہیں اگر ہمارے حکمران ہم سے ڈریں نہیں، اگر ہمارے حکمران یہ محسوس کریں کہ یہ عوام ہمارے اپنے ہیں، اس ملک کے ہیں۔ خواہ مخواہ اگر ہم ان کے حقوق سلب نہ کریں تو یہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے حکمران ہم سے ڈرتے ہیں ہندو سے ہنس ڈرتے، یہود سے ہنس ڈرتے وہ بار بار ہمیں فتح کرتے ہیں۔

جناب والا! ہم ایک مارشل قوم ہیں۔ برٹش آرمی

میں جب بھی بھرتی ہوتی تھی جتنی بھی بھرتی ہوتی تھی وہ Northern India سے ہوتی تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ اب ہم صرف چند سکولوں میں چند مہینوں کے لئے محفوظی سی تربیت دیکر ایک سرٹیفیکیٹ دے کر طالب علم کو بیس لمزدوں کا لالچ دے کر اس تربیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیں پاکستان کے ہر شہری کو فوجی تربیت دینی چاہیے یہ ایک مزوری چیز ہے لیکن اس کے لئے میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے موجودہ حکمرانوں کو ہم پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر ان کے دل میں کوئی چور نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں اس ملک کے دفاع میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور اگر وہ ہم پر یقین نہیں کرتے ہم پر اعتماد نہیں کرتے تو یہ میرے لئے بھی باعث شرم ہے کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا ہے جناب آپ اور میں اور ہمارے سب دوست جانتے ہیں کہ مسلم لیگ

کی بنیاد مشرقی پاکستان میں ہی رکھی گئی تھی۔ مسلمانوں کے لئے ایسی حقوق کا مطالبہ کرنے کی تحریک وہاں سے چلی تھی۔ اور زیادہ تر کامیابی مسلم لیگ کو وہیں سے ہوئی اور پہلی مسلم لیگی حکومت وہاں ہی بنی تھی۔ لیکن وہ ہم سے کیوں الگ ہو گئے، انہیں ہم سے نفرت کیوں ہو گئی پھر ہماری اتنی جو فوج وہاں گئی ان کو اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کی بجائے پشت دیکھنے کی کیوں ضرورت پڑی اس واسطے کہ ان کو ان دوستوں پر اعتماد نہیں تھا اور ان دوستوں کو بھی ان پر اعتماد نہیں تھا۔ بنگالیوں کو فوج پر اعتماد نہیں تھا اور فوجیوں کو civilians پر اعتماد نہیں تھا۔

کیا جناب والا! ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سندھ کے عوام کا فوج پر اعتماد ہے، بلوچستان کے عوام کا ہماری فوج پر اعتماد ہے اور اگر ہے تو بلوچستان والے اور سندھ والے بہت ہی زیادہ محب وطن ہیں ان کو سلام کرنا ہوں۔ اور اگر نہیں ہیں تو اس کی ذمہ داری جناب چیئرمین نہ آپ پر ہے اور نہ مجھ پر ہے اس خلیج پر ہے جو ان میں اور فوج میں پیدا کی گئی ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ خلیج روز بروز وسیع سے وسیع تر ہوتی رہے۔ ہندوستان وہاں کیا کر رہا ہے، کیا تیاری کر رہا ہے اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے حضور والا! کسی صدر صاحب کے دور میں ۵۰ شرمین ٹینک خریدے گئے تھے اور جو فوجی انصر وہاں بھیجا گیا تھا کہ جا کر ان ٹینکوں کو examine کرے، اس کو دو ٹینک پیش کئے گئے تو اس نے کہا کہ میں پاکستان کے

[Akhunzada Bahrawar Saeed]

خرشچ پر آیا ہوا ہوں میں دو ٹینک کیوں examine کروں میں ۵۰ گئے
 ۵۰ ٹینک examine کروں گا اور جب اس نے ۵۰ ٹینک examine
 کیے تو ان میں ۴۸ condemned تھے اور اس انسٹر کو پھر سروس
 سے نکال دیا گیا ، کہ نہیں کیوں جرات ہوئی کہ بقایا ٹینک تم نے چیک
 کئے ، اگر ہم اپنے دفاع کے لئے ایسا ہی اسلحہ حاصل کرتے ہیں
 کہ یہاں لا کر پھر اس کو کباڑیے کے پاس بھیجا پڑتا ہے ، ایسا اسلحہ
 خریدنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور ہم کیوں ایسا کرتے ہیں ۔
 جناب والا ! ہمیں پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اسلحہ
 ساز کارخانے خود اس ملک میں تعمیر کریں ، بند کیجئے
 موٹر گاڑیوں کی درآمد ، بند کیجئے عیاشی کے سامان کی درآمد ، بند
 کیجئے ایسی تمام چیزیں ، یہ بڑی بڑی تنخواہیں ختم کر دیں ۔ اس رقم
 کو کیجئے اس فونج پر خرشچ ، ہمارے الاؤنسز بند کر دیں ، لیکن
 ان پر خرشچ کیجئے مگر ان کو صرف ہمارے پاکستان کی جغرافیائی حدود
 کے تحفظ کے لئے مخصوص کریں ، وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کی
 قدر کرتے ہیں ہم ان کی عزت کرنے ہیں ایک بھائی میرا فونج میں
 ہے ایک ایر فورس میں ہے ایک ایگزیکٹو میں ہے ایک مزدور ہے
 ایک ڈرائیور ہے تو ہم سب ایک گھر میں ہیں یہ احساس کیوں ہوا ہے
 اور کیوں بڑھ رہا ہے کہ فونج ہم سے ایک والگ فوق البشر مخلوق ہے
 یہ احساس کمتری اور یہ احساس برتری و بہتری بری چیز ہے ۔ جتنا جلد
 ہو سکے اس احساس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے ۔
 جناب والا ! ہم نے کوشش کی ہے اچھی کوشش کی ہے کہ ہم

ایک چھوٹا سا اٹامک پلانٹ develop کریں ، لیکن کون شور کر رہا ہے ، کون غوغا کر رہا ہے ، یہود اور ہمنود ، حالانکہ یہود نے بھی بنایا ، ہمنود نے بھی بنایا اور ممالک نے بھی بنایا غیر مسلم ممالک نے بنایا لیکن یہود کا تو یہودی بم نہیں کہلایا ، ہندو کا تو ہندو بم نہیں کہلایا ، اگر ہم بناتے ہیں تو اسے مسلم بم کہا جاتا ہے ، اسے اسلامک بم کہا جاتا ہے اور پھر اس پر ہم شرمسار ہوتے ہیں۔ جا بجا کہتے ہیں کہ ہم نہیں بناتے ہم میں استطاعت نہیں ہے ، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے یہ ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہم بنائیں گے ، ہمارے پاس اگر وسائل نہیں ہیں تو ہم گھاس کھالیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے ہم ایک تنگوٹی پہن کر پھریں گے مگر اس کو بنائیں گے۔ ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے ، بانگ دل کہنا چاہیے کہ اگر ہندوستان بنا سکتا ہے اسرائیل بنا سکتا ہے ، افریقہ بنا سکتا ہے اور ممالک بنا سکتے ہیں تو ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے اور ہم بنائیں گے اور ہم نے بنا بھی لیا ہے۔ یہ ہمارے پاس بہت بڑا deterrent ہوگا ، ہم نے کس کے خلاف استعمال کرنا ہے ایران کے خلاف ؟ افغانستان کے خلاف ؟ وہ تو ہمارے اپنے بھائی ہیں ، ہم اپنے دفاع کے لئے استعمال کریں گے As deterrent استعمال کریں گے لیکن اگر ہندو اس کو استعمال کرے گا تو ہمارے پاس بھی ہوگا تو ہم ہندو کے خلاف استعمال کریں گے بغیر کسی ڈر کے ، جناب قائد اعظم کے الفاظ مجھے اب بھی یاد ہیں اور آپ کو بھی یاد ہوں گے۔

“Pakistan has come to stay and we will fight and we will fight to the last man and if we have no space we will jump into the sea but will not surrender”

[Akhunzada Bahrawar Saeed]

وہ جذبہ کہاں گیا وہ ہم میں کیوں نہیں ہے اس لئے کہ حکمرانوں نے ہمارے حکمران جو بھی ہیں، صرف یہ موجودہ نہیں، ان سے پہلے کے بھی، ہمیں الگ مخلوق سمجھا اور انہوں نے اس ملک کے دفاع کے لئے، کہنے کی تو بات اور ہے کیا کچھ نہیں، اگر ایک موسیٰ نے یا ایک عیسیٰ نے یا کسی ایک نے چھب نفتح کیا کوئی اتنی بڑی کلروائی نہیں ہے اس کنٹرول لائن کی کیا implications ہیں، ہم سے سیاحتیں کیوں گیا؟ کہا گیا کہ کوئی بات نہیں اس پر تو گھاس تک نہیں اگتی لیکن اس کے ساتھ تو شاہراہ ریشم ہے اس کے ساتھ واحان ہے اس کے ساتھ شکلیاں ہے اس کے ساتھ وہ راستہ ہے جو ہمیں چین کے ساتھ ملاتا ہے اس دوست کے ساتھ ملاتا ہے جس کی دوستی پر میں ناز کرتا ہوں۔

جناب والا! اب ہندوستان نے روس سے جو atomic frigates حاصل کئے ہیں وہ کس لئے حاصل کئے ہیں وہ سری لنکا میں کس طرح سے گیا، اس نے بھوٹان کو کیسے زیر کیا اور اور اب بنگلہ دیش کے بارڈر پر وہی بنگلہ دیش جسے اس نے ہم سے الگ کیا تھا، خار دار تار لگا رہا ہے جیسے کہ اب امرتسر کے بارڈر پر اب ہمارے لئے لگا رہا ہے، کب وہ وقت آئے گا جناب چیئر مین صاحب! جب ہم یہ محسوس کریں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ وہ ممتاز دولت مند صاحب کی بات کہ اے پاکستانو خدا کے واسطے اگر محب پاکستان نہیں بن سکتے ہو تو خود غرض بن جاؤ، اتنے خود غرض بن جاؤ کہ تمہاری غرض اس ملک میں پوری ہو رہی ہے

تو اس ملک کا بچاؤ کرو کیوں کہ تمہاری اس میں خود غرضی ہے
 میں نہیں جانتا اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ
 جو ملک ہم نے ووٹ سے حاصل کیا تھا جو ملک ہم نے عوام کی
 مرضی سے حاصل کیا تھا اور اس مقصد کے لئے حاصل کیا تھا کہ
 یہ اسلامی دنیا کا ایک مضبوط قلعہ ہوگا یہ ایک ایسے لنک میں ہے
 کہ پاکستان سے لے کر الجیریا تک مسلم قوم کا ایک لنک چلا جا رہا
 ہے ہم ان کو بھی defend کر سکتے ہیں۔ مگر یہاں بیٹھے
 ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں، ہمیں ایف ۱۶ دو، ہمیں ایف ۱۵
 دو ہمیں اوکس دو، وہ دیتے ہیں، وہ نہیں دیتے ان جہازوں
 کے ساتھ ان کے آدمی آئیں گے وہاں سے ان کا عملہ آئے گا
 ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوتے ہیں جو سال میں ۳ مہینے کہاں
 ہوتے ہیں، چھ مہینے کہاں ہوتے ہیں سووے بازیاں کر لیتے ہیں
 ۶ کروڑ کا ہو تو ایک کروڑ کم از کم ان کی جیب میں جاتا ہے۔ جب
 ہم اپنے ہی ڈیفنس کے مال پر کمیشن لے کر وہاں اپنے گھر بناتے ہیں
 تو کیا ہماری گردن کاٹنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم ہندو کے ساتھ مقابلہ
 کرنے کی ہمت رکھتے ہیں یا ہندو کے ساتھ مقابلے کا ہم سوچ سکتے
 ہیں۔ ہندو کے سامنے تو ہمیشہ ایک مقصد رہا ہے جب میں بچہ تھا
 مجھے یاد ہے کہ جب ہر طرف یہ آواز تھی کہ ہندو مسلم بھائی بھائی ایک
 کتاب میں ایک تصویر میں ایک بچے نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس
 میں لکھا تھا یہ ہندوستان کا بیٹا ہے مگر پھر بھی مسلا ہے، مسلمان
 ہے۔۔۔ حضور ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ

[Akhunzada Bahrawar Saeed]

بات آپ کو یاد ہے جب فرانکو نے میڈرڈ پر حملہ کیا تو کسی نے اسے کہا

General: your Army is advancing, your columns are advancing from all the four sides. He said "no" a fifth column is working inside. Here the fifth column is working inside Sir, we are not only encouraging them, giving them very very high posts and allowing them to divulge our sectors to the enemy.

جناب والا! کوئی ایسا ملک ہے جس میں یہ جانتے ہوئے کہ یہ "RAW" کے ایجنٹ ہیں ان ساپنوں کو ہم دودھ پلا رہے ہیں کوئی اور ملک ہے جو ان ساپنوں کو دودھ پلاتا ہے
جناب چیئر مین: وقت کا ذرا لحاظ رکھیں۔

اخونزادہ بہرہ ورسعید: میں اس کو ختم کئے دیتا ہوں میں یہی کہوں گا کہ ہندوستان کا جو فوجی design ہے جو اسلحہ وہ جمع کر رہا ہے جو اسلحہ وہ خرید رہا ہے یا جو اسلحہ وہ بنا رہا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اس پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ اس کے سدباب کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں ایک تجویز میری یہ ہے کہ اس حکومت کو عوام کا اعتماد حاصل کرنا چاہیئے اور وہ اعتماد جناب چیئر مین تلوار سے نہیں ہوگا پیار سے ہوگا جیسا میں نے کہا کہ یہ ملک ہم نے کسی جرنیل کی تلوار سے حاصل نہیں کیا تھا ہم نے زبان کی تلوار سے حاصل کیا تھا۔ دوسرا اپنے وسائل کو استعمال کر کے اپنی فوجی ضروریات کا سامان خود بنانا چاہیئے اور اپنی قوم کو جس میں able-bodied جتنے لوگ ہیں بلحاظ کسی عمر کے ان کو فوجی تربیت دینی چاہیئے آخری بات یہ کہ فوج کو صرف اور صرف اس مملکت خداوار پاکستان کی سرحدات کے تحفظ کے لئے استعمال کرنا چاہیئے ان سے کوئی اور کام نہیں لینا چاہیئے ان کی توجہ کو divide نہیں کرنا چاہیئے بلکہ اس ایک نقطے پر مرکوز کرنی چاہیئے کہ You have to defend this country.
Thank you Sir.

جناب چیئرمین : شکریہ ! نوابزادہ جہانگیر شاہ جو گیزنیء صاحب۔
قاضی عبداللطیف : جناب والا کورم نہیں ہے۔

جناب چیئرمین : ویسے اب اس کو ختم ہی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں وزیر صاحب کو آپ سن لیں تو ختم ہی ہو جائے گا۔ جی فرمائیے۔
نوابزادہ جہانگیر شاہ : اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
جناب جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ملک میں Islamization لاتے ہیں تو سب سے پہلا فرض جو ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے۔ وہ جہاد ہے یہ فرض کفایہ نہیں ہے جب جہاد فرض ہے تو پھر اس کے لئے تربیت اور اس کا علم حاصل کرنا بھی اسی طرح سے فرض ہے جیسے نماز۔

ہندو کے عزائم کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ۵۸ء میں بلگائن خسرو کابل میں آئے تھے اور وہاں پر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ پاکستان کو تقسیم کرو۔ دیبائے سندھ سے اس طرف ہندوستان اس طرف افغانستان اور روس۔ پاکستان میں اس دوران اپنی اپنی کرسیوں کے سوا کسی کو کوئی فکر نہ تھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دشمن ہمارے لئے کیا عزائم رکھتے ہیں اور اس کی کیا پلاننگ ہے اور اس کی پلاننگ کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے ہم خاموش تھے مدہوش تھے اپنی کرسی اور اپنی حکومت میں مست تھے ہم کو پتہ چلتا تھا لیکن کہاں تک بات پہنچانے کہ کیا ہو رہا ہے۔
پاکستان کی تعمیر کیسے ہوئی ایک ایک روڑہ اسلام کے سینٹ سے چن کر ایک مضبوط قلعہ بنایا گیا جب تک اس میں یہ مسالحو موجود ہے تو روٹا اینٹ پتھر سب اکٹھے مل کر ایک مضبوط چیز بن سکتی ہے جب آپ اس کو

[Nawabzada Jahangir Shah]

disintegrate

کر سگے تو یہ ریزہ ریزہ اور جدا جدا ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے دشمن نے یہ چیز کی کہ پاکستان کے اندر علاقائی عصبيت کو ابھارا پھر یہ سازش کی کہ یہاں نااہل حکومت کو لایا جائے۔ امریتا کو یہاں قائم کیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ امریتا میں کیا ہوتا ہے؟ امر کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے اپنی ذات ہوتی ہے اپنی کرسی ہوتی ہے وہ ملک یا قوم کی تربیت نہیں کرتے وہ قوم کو شعور نہیں دیتا بلکہ شعور چھینتا ہے، قوم کو مفلوج کرتا ہے اس کو طاقتور نہیں بناتا۔ پاکستان کا نقشہ ذہنوں میں تھا زمین پر نہیں تھا لیکن یہ نقشہ کہاں سے آیا۔ ہندوستان اس وقت بھی طاقت ور تھا کیشیر کی جنگ فوج کے بغیر قبائلیوں نے لڑی۔ مجھے پٹیل کی وہ بات بھی یاد ہے کہ قبائل کو بند کرو اگر آپ بند نہیں کر سکتے تو ہم خود آتے ہیں پھر وہی ہندوستانی یو۔ این۔ او میں جا کر پیشانی رگڑنے لگے وہ کیا تھا وہ ہماری یک جہتی کا نتیجہ تھا وہ جذبہ اسلام تھا وہ ہماری اخوت تھی ۵۸ء سے لے کر اب تک کتنی پارٹیاں بنیں۔ NAP بنی۔ نیپ نے پٹھانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ ساری instructions وہاں سے آتی رہیں۔ ہم اس لئے بے خبر رہے کہ ہمارا قومی شعور دن بدن دھندلاتا گیا۔ پھر ایسٹ پاکستان ہم سے گیا ہم نے کچھ محسوس نہ کیا بلکہ یہاں تک ہم کو معلوم نہیں ہو سکا کہ انٹواری رپورٹ کیا ہے وہ بھی سامنے نہیں آ سکی نہ کسی نے آجنگ تجزیہ کیا کہ ہم لوگوں میں کون سی کمزوری تھی۔ اور ہماری ان کمزوریوں کی وجہ سے ملک میں بے چینی اور بددلی پیدا ہوتی رہی اور ہو رہی ہے۔

جناب عالی! باتیں تو بہت ہو چکیں۔ انگریز کی پشت پناہی ہندوستان

کو حاصل تھی اگر اس وقت ہندوستان کے لیڈروں میں یا ہمارے لیڈروں میں ذرا بھی شعور ہوتا اور ہندوستان کی تقسیم صحیح کر لیتے تو ہندوستان اور پاکستان آپس میں کیوں لڑتے ہم فوج کے اوپر کیوں خرچ کرتے ہم کیوں نہ عوام کی بہبود پر خرچ کرتے یہ بھی ایک چال تھی جس کا ابھی میں تذکرہ نہیں کروں گا کیوں کہ وقت بہت کم ہے۔

جناب حاصل کلام یہ ہے جو قوم industrialization کے لئے سٹیفیکٹ مانگتی ہو اجازت نامہ مانگتی ہو جہاں پر ایسے لوگ ہوں جو دماغ بھی رکھتے ہیں۔ دولت بھی رکھتے ہیں ان کو آپ اجازت نہ دیں تو پھر ترقی کیسے ہوگی۔ مجھے ایک انڈسٹریلڈ نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو ایف۔ ۱۶ یہاں بنا کر دیں گے آپ کیوں دوسروں سے مانگتے ہیں۔ آپ آرڈیننس فیکٹریز لگانے پر کیوں قدغن لگاتے ہیں کیوں لوگوں کو اجازت نہیں دیتے کہ ہر جگہ آرڈیننس فیکٹری لوگ بنائیں اور قبائلی علاقوں میں کئی سالوں سے کئی صدیوں سے لوگ arms بنانے میں آزاد ہیں۔ آرمز تو مسلمان کا ہتھیار ہے جب جہاد فرض ہے تو اسلحہ رکھنا بھی فرض ہے۔ ہماری فوج اچھی ہے۔ ایک لیول تک تو یہ محب وطن ہے اس لیول کے بعد جب اعلیٰ فوجی افسروں میں خود غرضی آجاتی ہے اور وہ آرام طلب ہو جاتے ہیں جب حکومت کا ان کو چسکا پڑ جاتا ہے۔ جب کہ آرگنڈیشنڈ موٹروں میں آنا جانا ہوتا ہے جبکہ ان کا کام پتھروں میں درختوں میں ۱۶ ہزار فٹ کی بلندی پر جانا ہوتا ہے جہاں لوگوں کے پاؤں چھل جاتے ہیں۔ جس وقت کشمیر کی جنگ ہوئی تھی تو گلگت سکاؤٹس میں سے ۸۴ آدمی ایسے

[Nawabzada Jahangir Shah]

تھے۔ جو معذور ہو گئے تھے۔ میں نے ان کے لئے ایک فنڈ قائم کیا تھا۔ ۱۸ ہزار فنڈ بلندی پر لوگوں کے پاؤں کٹ گئے تھے۔ وہ Disabled ہو گئے تھے، اگرچہ آٹھ سو سکاؤٹس زیادہ نہیں تھے لیکن انہوں نے انڈیا سے مقابلہ کیا تھا۔ حالانکہ ایک سیکشن کے سوا اور کہیں بھی ہمارے سکاؤٹس زیادہ نہیں تھے۔ ہمیں وہ جذبہ Revive کرنا ہے، صرف اسلام کے لئے۔ ملک کی تعمیر ہوتی ہے ایک بنیاد پر، ایک اصول پر، اگر اصول ٹوٹ گیا خواہ خود غرضی کی وجہ سے یا حکومت کے لاپرواہی میں، یا اپنے بچاؤ کے لئے تو اس طرح نہ وہ ملک رہتا ہے اور نہ ہی قوم باقی رہتی ہے۔ اس لئے سپاہیوں سے اور سوبیلین سے اور سیاسی لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ خدا کے واسطے، جو بھی فکر کریں پہلے ملک کی فکر کریں۔ ملک کے لئے قربانی دو، چاہے یہ کرسی کی قربانی ہو، چاہے بادشاہت کی قربانی ہو، اگر ہم ان خواہشات سے دست کش نہیں ہوں گے تو پھر ہم حکومت سے اور ملک سے دست کش ہو جائیں گے۔ بس میری اتنی ہی گزارش ہے کہ جہاد مسلمانوں پر فرض ہے، اس کو اس طرح سے اپنایا جائے کہ اس سے سارے ملک میں مجاہد پیدا ہوں گے۔

Mr. Chairman : Mr. Mahmood A. Haroon.

Mr. Mahmood A. Haroon: Mr. Chairman, I am highly appreciative of the speeches made by the members of this House and I know that they are anguished and in their patriotic zeal at times they have said more than necessary, but I even appreciate that and laud it because I fully realize that they are great patriots and they suffer tremendously when they see that our fair land is threatened and surrounded on all sides by inimical attitudes and views and even actions.

Sir, this is not the time for me to go in the political aspect of this case but I wish to assure this House that as far as they have made some practical suggestions such as the development of industries, defence oriented industries, I can assure them that the government has laid down a policy for the transfer of technology and for improving defence production not just in small arms but in whatever field we can, not only that but we are also prepared to collaborate, with anybody who will help us to manufacture arms for our own defence. We have no offensive intentions—Muslims have never had aggressive tendencies.

They have always fought wars in the defence of their ideology; in the defence of their character. The wars that they have fought, they have fought against evil; they have fought against suppression and ruthlessness and oppression and, *Insha Allah*, the people of this country and Muslims of the World will keep to that tradition. The greatest tradition of peace can be seen by the examples that our Prophet (Peace Be Upon Him) gave in the Peace of Hudaiba wherein when he was victorious but he still went for peace and when his followers objected to certain words in the peace document he struck them out with his own hand.

Sir, I assure you with this feeling of our people there is no reasons why we should not rise to the top; why we should not once again achieve the glory but unfortunately we are weak withing ourselves not as a nation but as individuals and I hope, that along with this, we shall see the rising of constructive work in this nation. Also, I appreciate the proposals for the Militia to be raised and for every able-bodied man to be well versed in the art of defence but Sir, the time lag of centuries cannot be made up in few years. There are friends of mine who have retired; there are friends of mine who have experience. They know that the training itself takes a very long period and also in the modern days, the sophisticated arms must be handled by people during the whole year and not at a particular time. I fully also realize that some members have said that a standing army is a necessity. I know that and they have appreciated that it is the need of the hour but they have also said that training to the common people of this country, should be given. As they well know, may be the programme is small but there are reasons why it cannot be enlarged and expanded overnight because right now we are going through a process of modernization. After 1956, this is the first time that modernization of our equipments is taking place and it is not yet complete and we hope that with the support of our nation we will be able to achieve that.

I fully accept that no nation can survive unless people are united; unless the people desire that they should live in peace; unless the people understand and are prepared to shoulder their responsibilities of fighting aggression at any cost and at any stage and I am proud to say that my nation feels the same. But reverting to the actual subject itself we assure the members of this House that the government has taken full cognizance of the introduction of submarines and latest other weapons. We understand fully that it is a threat not only to us but to all the other regions surrounding this major power in the sub-continent. We have expressed our fears at every stage. The President has spoken about it; the foreign office has taken this subject and we have told the world that introduction of these kinds of weapons is not de-escalating the situation in this region. On the one hand, we talk of the militarization; we talk of non-proliferation of atomic weapons and on the other hand a major country goes and buys atomic submarines etc. This causes us concern and we hope that they will also realize at what cost it is to them and to their people and that war has never done good to any nation. And war we have seen, in the Second World War, the nation that won the war lost the peace. We shall never enter a war and, therefore, since we defend ourselves, *Insha Allah*, we shall win the peace and we always shall win the peace that will last much longer than the aggressive designs. Also, a note has been taken of this situation surrounding all of us and the fears that are there and I can assure you that as I have just said that we not only in this one sphere but in every sphere have decided that the transfer of technology will be the primary object of this country and at every stage if we buy anything not only just goods, (I am not talking of utilities or other things) but in major purchases whatever we buy we will link it with the transfer of technology so that this nation can progress and I assure the House that full efforts are going on and conditions have been laid down in certain cases and transfer of technology has started but it shall take time and

[Mr. Mahmood A. Haroon]

I hope that with the adaptability of our people, with the eagerness of our people, the transfer of technology will not take so long as it has been by many nations.

I once again thank the honourable members of this House for their sentiments and the patriotic zeal that they have expressed in this House. I thank you, Sir,

Mr. Chairman : Thank you very much.

This brings to a close the discussion on the adjournment motion on India having acquired sophisticated arms from other countries on a large scale posing a threat to the security and integrity of Pakistan.

This also I think brings us to the end of our today's discussion.

The House is adjourned to meet again on Sunday, the 31st July, 1988, at 10-00 am. as a Private Member's Day and in the meantime *Eid Mubarak* to all of you. The House stands adjourned.

(The House adjourned to meet at ten of the clock, in the morning, on Sunday, 31st July, 1988).
